



شانِ اہلبیت پر حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند تصنیف

المودۃ فی اقربى ترجمہ ذکر العباد


مصنف: حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ



مترجم:

فیضیہ نقشبندیہ
پیر حاجی انعام اللہ طیبی ریاضی نقشبندی
فقیر سید وقار علی حیدر مدنی نوشاہی قادری

غلامی آستانہ عالیہ حضرت گراماوار شریف



کھانہ والا لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



کتابخانہ اسلامیہ

Phone: 042-37249515 0301-4132690

وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ

شانِ اہلبیت پر حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت تصنیف

المودۃ فی اقربى ترجمہ ذکر العباء

مصنف: حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم:

زیر نگرانی

فقیر سید وقار علی حیدر
ہمدانی نوشاہی قادری
پیر حاجی انعام اللہ طیبی
برکاتی خانہ
غلیظہ بازار آستانہ عالیہ حضرت کریم اہل شریف

دکان نمبر ۵-
دربارہ قادیان
لاہور

کَرَمَانَ وَالْاَبْکَى شَاپ

Voice: 042-37249515 0307-4132690

بندِ صفت

شرفِ عالمین سراج المکرمین قلعہ الاقصاب، پیرائیت، دہلی شریف

حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

المفت و حضرت کمال والے۔ آستانہ عالیہ حضرت کمال والا شریف (لاہور)

پیشانی میں امام غلام مصطفیٰ شاہ بخاری
نہضت اسلامیہ کمال والا شریف

● حضرت سید محمد عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

● حضرت سید میر طریب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

● حضرت سید غلام حیلانی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

● حضرت سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

● حضرت سید محمد عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

● حضرت سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ



چاہتے ہو اگر نیت نامی آل زہرا رضی اللہ عنہما کی کرو غلامی
ان کھدقے سے زہد نیازی پر کوئی کے مادی ہونے ہیں

زینتِ اہل بیت نور الزادات، فوائدِ اہل بیت
حضرت سید محمد عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
پانچین حضرت
سرماء والا شریف

زینتِ اہل بیت نور الزادات، فوائدِ اہل بیت
حضرت سید میر طریب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بابائی
مذہبِ طریبی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
مسجدِ دلشون
حضرت سکرماء والا شریف

فتاویٰ شیخ صفی
یامقلا، بیگم سید صفی
الوہا الاشمع اللہ

الحاج صفی
برکت علی رحمۃ اللہ علیہ
بانی بکولہ اللہ شاہ شاہ

سید محمد الدہلوی
نیز اہتمام

زیرِ سرِ پرستی
حاجی امیر اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
میر کاظمی غلامی
غلامی آستانہ عالیہ حضرت کمال والا شریف

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قیمت 400 روپے

اشاعت 21-04-2013

اسلام کے شاہ محمد اسماعیل غلامی
اسلام کے پیر بانی میاں سکرماء

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۷	عرضِ ناشر	۱
۱۰	عرضِ مرتب	۲
۱۶	حالات امیرِ کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ	۳
۳۶	خطبہ المودتِ القرنی	۴
۲۸	مودتِ اولِ فضائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	۵
۵۵	مودتِ دومِ فضائل اہل بیت	۶
۷۵	مودتِ سومِ فضائل امیرِ المؤمنین علی علیہ السلام	۷
۸۷	مودتِ چہارمِ سیدِ الواصلین حجتِ الملی	۸
۹۵	مودتِ پنجمِ جن کا نبی مولا آل کا علی مولا	۹
۱۱۱	مودتِ ششمِ علی رسول اللہ کا بھائی اور وزیر	۱۰
۱۲۱	مودتِ ہفتمِ حضرت علی رسول خدا کا قرض ادا کرنے والا ہے	۱۱
۱۴۹	مودتِ ہشتمِ فی ان رسول اللہ وعلیاً من نور	۱۲
۱۶۸	مودتِ نہمِ مفتاحِ الجنت والنار	۱۳
۱۷۸	مودتِ دہمِ عددِ الائمۃ الاطہار	۱۴
۱۹۱	مودتِ یازدہمِ فضائل سیدۃ النساءِ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا	۱۵
۲۰۳	مودتِ دوازدہمِ فضائل اہل بیت	۱۶
۲۱۹	مودتِ سیزدہمِ حضرت خدیجہ و فاطمہ سلام اللہ علیہما	۱۷
۲۳۴	مودتِ چہارمِ دہمِ فضائل النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۸

عرضِ ناشر

لی ختمہ اطفی بہا حرا الوباء الہا طمہ
المصطفیٰ والمرضیٰ وابناہماء والفاطمہ

بلاشبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے
جیسا کہ خود نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام
سے افضل و بہتر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

اے امت محمدیہ تم ہی بہترین امت ہو تمام امتوں میں سے جو بنی آدم میں ہیں
شرعیات محمدی پہلی تمام شریعتوں سے زیادہ کامل اور جامع ہے اور
دین محمدی تمام تراویان سابقہ کا ناخ ہے یعنی جب حضور انور نور محمد صلی علیہ وآلہ وسلم
خاتم الانبیاء ہوئے تو حضور کے بعد کوئی بھی دین اور شریعت ہو ہی نہیں سکتی
اور اب کسی گماں کا انتظار نہیں باقی رہتا ہے۔

اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آپ کی آل اطہار کو ہی امت میں حاصل
ہوتی ہے جیسا کہ خود اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے
میرے حبیب تمام مسلمانوں سے فرمادیں کہ اے مسلمانو! میں
اپنی اس تبلیغ کا تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا ہاں میرے قرابت داروں
سے محبت رکھنا۔ تمام صاحبین امت اس بات پر متفق ہیں کہ قرابت
داروں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک یعنی حضرت
فاطمہ الزہراء، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

جیسا کہ ایک مستند حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا توکل ایمان والی عورتوں پر ہر طرح سے فضیلت حاصل ہے۔

مستند احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اپنی اولاد پاک میں سے پیار تھا۔

ایک حدیث میں یوں بھی وارد ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ اطہار سب سے پاکیزہ و مطہر ہے جس کا ذکر کلام اللہ شریف میں بھی ہوا ہے۔ یہاں یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ارشاد ہو گیا کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا تو پھر کوئی حکم یا نظریہ قابل قبول رہتا ہی نہیں۔

زیرِ نظر کتاب میں آپ کو اس سلسلہ میں وہ سبھی کچھ دستیاب ہو گا جس کی تمت آپ کرتے ہیں۔ یہ کتاب جناب محترم حضرت امیرِ کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی اور تصنیف کا گویا حق ادا کر دیا۔ پھر جب اس کا ترجمہ جناب سید وقار علی حید قادری نوشاہی سیماری مدظلہ نے فرمایا تو آپ نے بھی ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا اور مصنف کا مافی الضمیر صاف صاف طور پر بیان کر دیا تاکہ عوام اور خواص کے اذہان سے اگر کوئی شک و شبہ بھی ہو تو دور ہو جائے۔

ہمیں ہمارے بزرگوں نے نہایت کمسنی سے ہی آج ان سے محبت اور ستوں کا درس دیا اور ہم الحمد للہ رب العالمین اس پر قائم ہیں اور ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ آخر اس پر قائم رہیں گے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کیونکہ تفصیل تو آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ کریم غفور الرحیم اس کتاب کی اشاعت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دادا جان حضور قبلہ صوفی برکت علی صاحب علیہ الرحمۃ ہماری دادی جان اور والدہ صاحبہ کے درجات جنت معلیٰ میں بلند فرمائے اور ہمارے والد محترم حضور قبلہ سید الحاج الامام الشیخ برکاتی صاحب مدظلہ العالی کے روحانی درجات کو صدقہ آل پاک بلند فرمائے اور ہمیں ان کے روحانی فیوض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

خیر اندیش

ابو الحسن محمد ربیع برکت اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مرتب

قارئین کرام ! اس کائنات میں آفت نبی مکرم حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سب سے زیادہ گہری اور فطری نسبت اہل بیت کرام علیہم السلام ہی کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کا ذکر قرآن مجید نے یوں ارشاد فرمایا۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ
(پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرما دیجئے کہ تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا مگر قربت داروں کی محبت،

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ مَنْ قَرَابَتِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ مَوَدَّةُكَ
یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم (مسلمانوں) پر واجب ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔

قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا - آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین علیہ السلام حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزَدْلُهُ فِيهَا حُسْنًا -
اور جو شخص کھاتا ہے کوئی نیکی ہم دو بالا کر دیں گے۔ اس کے لیے اس میں حُسن -

حُبُّ آلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ
أَعْظَمِ الْحَسَنَاتِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و عورت کی محبت اعلیٰ ترین
نیکوئوں میں سے ہے

(تفسیر روح البیان حصہ ۲۵ ص ۳۳)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا -

أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوا
بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي

اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے اور
مجھ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میرے
سبب محبت کرو۔

(ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹)

مندرجہ بالا آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے -
حضرت سید امیر کبیر علی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان متوفی ۸۶ھ
رسالہ المودۃ فی القربی عربی میں تصنیف کیا۔ علامہ مولانا غلام حسن حنوائی اے
کی تحقیق کے مطابق یہ علیحدہ طور پر دوسری کتابوں کے ساتھ اب تک
(۱۰) دس بار سے زائد مرتبہ شائع ہو چکا ہے عربی متن کا فارسی اور ترکی
اور انگریزی میں ترجمے اور عربی میں اس کی مبسوط شرح البسری کے نام سے
(۲) دو جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس کا عربی متن بھی بیروت

میں چھپ چکا ہے لیکن شائع کرنے والے نے اسے نور الدین جعفر خدشی کا نسخہ قرار دیا ہے حالانکہ رسالے کے خطبے میں صاف طور پر حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود ہے۔

حضرت شاہ ہمدان کی دوسری کتابوں اور رسائل کے برخلاف اس قلمی نسخے کم پائے جاتے ہیں۔ علامہ غلام حسن جنوایم (خیلو بلستان)، فرماتے ہیں مندرجہ ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- ۱۔ کتاب نہ آصفیہ حیدر آباد کن انڈیا ۲، لائبریری ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کلکتہ انڈیا۔ ۳۔ مکتبہ الامام علی امیر المومنین نجف اشرف عراق
- ۴۔ برٹش میوزیم لندن برطانیہ ۵۔ کتاب نہ راجہ صاحب محمود آباد لکھنؤ بھارت نمبر ۹۵۵ اور نمبر ۲۲۱ دونے، ۶۔ ریسرچ لائبریری سری نگر بھارت نمبر ۲۸۴۴، ۷۔ اخوند علی لہر کھر کو بلستان پاکستان
- ۸۔ دولت علی تھلوی مہتمم مدرسہ شاہ ہمدان سکر دو، ۹۔ سید علی چھوڑ چھوڑ بلستان، ۱۰۔ برات لائبریری خیلو بلستان، دونے،
- ۱۱۔ لائبریری نور بخشہ یوتھ فیڈریشن یونیورسٹی البکار خیلو، ۱۲۔ مولانا ممتاز علی میر واعظ خاں قادیان نور بخشہ دوم سوم خیلو (شرح فارسی المودۃ القرآنی بلستان شائع کا نام سید میر نجم الدین شاقب میں سال کتابت ۱۱۵۴ھ
- ڈاکٹر سیدہ اشرف ظفر اپنے تحقیقی مقالہ پی ایچ ڈی میں لکھتی ہیں۔
- ۱۳۔ شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مینابج المودۃ الجزء الاول میں اسے شامل کیا ہے یہ کتاب استنبول سے شائع ہو چکی ہے۔

قارئین کرام فقیر نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے ترجمہ اردو زبان میں مع عربی متن کے ساتھ کیا ہے اور بعض احادیث کی تخریج بھی کی ہے جن احادیث کی تخریج میسر نہیں ہو سکی اس کا فقط ترجمہ مع عنوان پیش کر دیا ہے رسالہ ہذا کا کافی حصہ صحاح ستہ اور دیگر فضائل اہل بیت پر مبنی بہت سی کتب سے اخذ ہے قارئین سے التماس ہے کہ ہم نے تصحیح کی بڑی کوشش کی ہے پھر بھی انسان ہونے کے ناتے غیر ارادی بھول ہو گئی ہو جہاں کہیں کوئی سقم یا غلطی پائیں تو اس فقیر کو ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں درستگی کی جاسکے۔

اظہار تشکر

اس کتاب کی اشاعت تک جن ارباب علم و فضل کا تعاون حاصل رہا ہے ان میں سے خاص طور پر میں جناب سید عبدالباسط شاہ ہمدانی دند شاہ بلاول اور پروف چیک کرنے میں خصوصی معاون سید تنویر حسین شاہ کانپوری، اور خطاط الملک جناب گلزار نبی ازی (ایڈووکیٹ) صاحب جنہوں نے خوبصورت انداز میں رسالہ ہذا کی کتابت کی اور جناب سید سعید اللہ برکت، سید اللہ برکت کرمان والا بک شاپ لاہور نے جس محبت اور جذبے کے ساتھ اس کی اشاعت کی ذمہ داری خود اٹھائی میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

خدا یا بختی بنی فاطمہ۔ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ
اگر دعوتی رد کنی و قبول۔ من دست دمان آل رسول
فقیر سید وقار علی حید
ہمدانی نوشاہی قادری

علامہ اقبالؒ کا نذرانہ عقیدت

فیض اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت و ارادت تھی۔ آپ نے انہیں سیدالسادات، سالارِ عجب، معمارِ تقدیرِ اُمم، مُرشدِ آس کشورِ مینوِ نظیر، میرِ درویش، مشیرِ سلاطین، مرشدِ معنی نگاہاں اور محرمِ اسرارِ شاہاں جیسے خوب صورت الفاظ کے حوالوں سے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اور ان کی مساعی جمیلہ کو سراہا ہے جو انہوں نے بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کے داخلی اور خارجی معاملات کو سنوارنے کے لئے سرانجام دیں۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو دورِ حاضر میں ملتِ اسلامیہ کے نباض ہیں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ”جاوید نامہ“ میں نہایت دل نشین اشعار میں کیا ہے۔ جاوید نامہ دانستے کی ڈیوائن کامیڈی کی طرح کا ایک خیالی سفر نامہ ہے۔ اس میں اقبالِ افلاک کا سفر کرتے ہیں اور مختلف اشخاص سے عالمِ ارواح میں ملاقاتیں کرتے ہوئے جنتِ الفردوس میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات شاعرِ کشمیر مولا طاہر غنی سے ہوتی ہے اور حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں اس ملاقات اور بات چیت کی تفصیل ”جاوید نامہ“ کے سات آٹھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار بعنوان ”زیارت حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی“

اور ” در حضور شاہ ہمدان “ یوں کیا ہے ۔

- ۱۔ سیدالسادات ، سالارِ عجم دست او معمارِ تقدیرِ اُمم
- ۲۔ تاغزالی دس ” اللہ ہو “ گرفت ذکر و فکراز دود مان او گرفت
- ۳۔ مُرشدِ آں کشورِ مینو منظر میر و درویش و سلاطین را مشیر
- ۴۔ خطہ را آں شاہ دریا آستین داو علم و صنعت و تہذیب و دین
- ۵۔ آفرید آں مردِ ایرانِ صغیر باہنر ہائے عجیب و دل پذیر
- ۶۔ یک نگاہ او کشایدِ صگرہ خیز و تیرش را بدل رہے بدہ
- ۷۔ مُرشدِ معنی نگاہاں بودہ امی محرم اسرارِ شاہاں بودہ امی

ترجمہ ۔

- ۱۔ سرداروں کا سردار ، عجم کا سردار جس کے ہاتھوں نے بطور معمارِ امتوں کی تقدیر بنادی
- ۲۔ جب غزالی نے ” اللہ ہو “ کا سبق لیا تو حضرت امیرِ کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے خاندان سے ذکر و فکرم کی تعلیم پائی
- ۳۔ آپ کشمیرِ جنتِ منظر کے مُرشد تھے اور قافلہ سالاروں ، درویشوں اور سلاطین کے مشیر و صلاح کار تھے ۔
- ۴۔ اس شاہِ دریا آستین یعنی دریا صفت سخی اور فیاض نے خطہ کشمیر کو علم و صنعت اور تہذیب و دین کی نعمت سے خوب نوازا اور مالا مال کر دیا ۔
- ۵۔ انہوں نے نادر اور دل بھانے والے فنون سے اس خطے کو ایرانِ صغیر بنادیا
- ۶۔ اس کی ایک نگاہ نے فکر و عمل کی سینکڑوں گتھیاں سلجھا دیں ۔ تو بھی اٹھ اور اس کے تیر نگاہ کو اپنے دل میں پیوست کر لے ۔
- ۷۔ آپ معانی پر نگاہ رکھنے والوں کے مُرشد اور بادشاہوں کے امور جہاں بانی کے رُخساز محرم

حضرت سید امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سید امیر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے وہ بیک وقت سلسلہ معظمہ کبریٰ و سلسلہ مکرمہ قادریہ کے جلیل القدر سالک طریقت، بالغ نظر قائد، بے مثال سوشل ریفاور، مؤثر مبلغ اسلام، مقتدر مفکر اسلام، مستند مفسر و محدث، نکتہ سخن قانون دان و فقیہ، مختص مشیر سلطان و امراء، ماہر معاشیات، ماہر عمرانیات، صاحب نظر مصنف و ادیب اور جذبات و احساسات کو نغمہ و مستی کے سانچے میں ڈھالنے والے منفرد شاعر تھے۔

خاندان : حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

کے والد مکرم کا اسم گرامی سید شہاب الدین ہے۔ یہ خانوادہ تقریباً دو سو سال سے ہمدان میں مقیم اور اس خطہ بے نظیر کا حکمران تھا۔ سلطان سلجوقی اس خاندان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔

حضرت سید شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ امور سلطنت میں مصروف ہونے کے باوجود خاصانِ بارگاہ الہی میں سے تھے۔ ہمدان ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں دنیائے اسلام کی عظیم شخصیتیں آسودۂ خاک ہیں جن میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت ہادی بن حضرت زین العابدین بن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بابائے طب شیخ الرئیس ابن سینا اور حضرت بابا طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سرفہرست ہیں۔ یہ شہر ایران

کے دار الخلافہ تہران سے دو سو میل کے فاصلہ پر مغرب میں واقع ہے۔

ولادت باسعادت

اسی عظیم تاریخی شہر میں بروز پیر بوقت فجر ۱۲۔ رجب المرجب ۱۲۷۱ھ کو عالم اسلام کے عظیم حسن امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب پاک اٹھارویں پشت میں حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جاملتا ہے اور والدہ مکرمہ حضرت فاطمہ علیہ الرحمہ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت امام حسن علیہ السلام کی سترہویں پشت میں جاملتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی۔ سید احمد بن محمد بن عبد الرحمن کیدانی حمزہ علیہ السلام سراج الانساب میں آپ کا شعبہ نسب یوں بیان کرتے ہیں۔

میر سید شہاب الدین سیاہ بزازش بن میر سید محمد الباقرقحسینی بن میر سید علی اکبر الوندی بن میر سید یوسف الحسینی بن میر سید محمد شرف الدین بن میر سید محمد محب اللہ بن میر سید ابوالکامل جعفر بلخی بن میر سید عبد اللہ بلخی بن میر سید محمد اول جلال آبادی بن ابوالقاسم میر سید علی جلال آبادی بن سید ابوعلی حسن الامیر بن میر سید اباعبد اللہ الحسین بن سیدنا جعفر المحمّد بن سیدنا ابوعلی علیہ اللہ الاعرج بن سیدنا حسین الاصغر بن سیدنا امام زین العابدین بن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بن سیدنا امیر المومنین علیہم السلام

تعلیم و تربیت :- ابتدا میں حضرت نذیر میر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماموں حضرت نذیر علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ تربیت پائی۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید فرقان حمید آداب تجوید قرأت کے ساتھ حفظ فرمایا اس کے بعد حدیث، فقہ اور دیگر علوم اسلامی میں دسترس حاصل کی پھر تزکیہ نفس کے لیے حضرت تقی الدین دوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب دوسی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روحانی کمال کی اعلیٰ منازل طے کرائیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت میر کبیر سیّد علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شرف الدین محمد موزوقانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا اور علوم ظاہری و باطنی کی اس پاکیزہ مجلس میں چھ سال گزارے

سلسلہ طریقتِ معظمہ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مَائَةِ أَلْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ

الہی بجزمت راز و نیاز شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین حضرت

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الہی بجزمت راز و نیاز باب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت

علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه
 الهی بجرمت راز و نیاز شهید دگر با حضرت امام حسین رضی الله عنه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت ابانین العابدین رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت امام محمد باقر رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت امام جعفر صادق رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت امام موسی کاظم رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت امام علی رضا رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت معروف کرخی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت سهری سقطی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت جنید بغدادی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت علی رودباری رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت علی کاتب مصری رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت عثمان مغربی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت قاسم جرجانی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت ابابکر نساج رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت احمد غزالی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت نجیب سهرودی رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت عثمان یاسر رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت نجم الدین کبریٰ رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت علی لاله رحمه الله علیه
 الهی بجرمت راز و نیاز حضرت جمال الدین احمد جوزقانی رحمه الله علیه

الہی بجرمتِ راز و نیاز حضرت عبدالرحمن اسفہانی رحمۃ اللہ علیہ
 الہی بجرمتِ راز و نیاز حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ
 الہی بجرمتِ راز و نیاز حضرت علاء الدولہ کمانی رحمۃ اللہ علیہ
 الہی بجرمتِ راز و نیاز حضرت شرف الدین محمود دقانی رحمۃ اللہ علیہ
 الہی بجرمتِ راز و نیاز حضرت میر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

سیر و سیاحت

مرشد کی طرف سے سیر و سیاحت کا حکم ملا کیونکہ سیر و سیاحت بھی تکمیلِ تربیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ چنانچہ مرشد کی ہدایت پر مزید علومِ باطنی و ظاہری کی تکمیل کے لئے تمام بلادِ اسلامیہ میں سفر کی کٹھن منزلیں طے کر کے علماء کرام اور صوفیائے عظام سے فیوضِ برکات حاصل کئے۔ سیر و سیاحت دراصل رضا کی وادی کا سفر ہے اور رضا کی وادی میں چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو گلاب کی پتیوں پر چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیاحت کے دوران آپ نے چودہ سو اولیاء اللہ سے استفادہ معنوی و روحانی کیا۔ اس دوران ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی مجلس میں آپ نے کئی کئی اولیاء اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ راہِ حق میں رضا کی وادی کا یہ سفر تقریباً اکیس سال جاری رہا۔ جس میں ایشائے کوچک مشرق وسطیٰ، روم (موجودہ ترکی)، افغانستان، ہندوستان اور سری لنکا شامل ہیں۔ جب آپ ملکِ روم پہنچے تو وہاں کے معاشرہ سے کٹ کر کسی مسجد میں گوشہ نشین نہیں ہوئے بلکہ ایک

بالغ منظر قائد اور سوشل لیفارمر کی حیثیت سے حالات کا بغور جائزہ لے کر آئے اس لڑائی کو دور کروایا جو وہاں پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہو رہی تھی۔ عیسائیوں پر آپ کی تیرم کردار کا ایسا اچھا اثر ہوا کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔

سیریاحت کا یہ سفر ۱۹۲۳ء سے ۱۹۵۳ء تک جاری رہا۔

۱۹۵۳ء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

(حُبُّ وطن ایمان سے ہے) کے مصداق وطن ہمہ ان لوٹے

وطن واپسی اور شغل تصنیف و تالیف

اہل وطن کے اصرار پر شادی کی اور طالبان و عارفان کی تعلیم و تربیت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ یوں ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی میں گزر جاتیں اور دن اللہ کریم کے بندوں کی خدمت اور تصنیف و تالیف کے لیے وقف تھے۔ ان تصانیف کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

خداں میں آمد (موجودہ تاجکستان)

نہ جانے کیا بات ہے کہ ہو بس پرست اور جاہ طلب اُمراء کے دلوں میں خلوت نشین اور بوریہ نشین ہمیشہ کا ٹابن کر چھتے رہے ہیں۔ امیر تیمور بھی اکثر آپ کے در پہ آزار رہتا تھا۔ اس کی کئی ایک وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ کے والد ماجد چونکہ ہمہ ان کے حکمران تھے۔ اور از خود دنیاوی سلطنت سے دستبردار

ہو کر معنوی سلطنت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اس لیے حضرت
میر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بادشاہ کے دل میں
ناحق کاٹا چبھتا رہتا تھا کہ کہیں وہ خویش و اقارب اور معتقدین کی
کثیر جماعت کے ساتھ اپنی موروثی سلطنت کا دعویٰ نہ کر دیں۔

دوم۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران میں وہ اس کا ساتھ دیں لیکن اہل سادات
اُس کی غیر اسلامی حرکتوں کی وجہ سے اس کی حکمت عملیوں کی حمایت
پر آمادہ نہ تھے۔

ان حالات میں آپ نے ہمدان سے نکل کر ختلان (موجودہ تاجکستان)
کا رخ کیا۔ وہاں خانقاہ کے لیے زمین خریدی اور رشد و ہدایت اور
درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں پر دیگر اکابر و اشراف کے
علاوہ امیر تیمور کے وزیر آرام شاہ کا بیٹا خواجہ اسحق بھی آپ کے عقیدتمندوں
میں شامل ہو گیا۔ منفدین اور غمخوار پسند براریوں نے امیر تیمور کو بہکایا
کہ ایسی مقبولیت سلطنت کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔

بخارا میں امیر تیمور کے ساتھ مکالمات

پہلے عاقبت نا اندیش مشیروں کے کہنے پر امیر تیمور نے آپ کو
بخارا کے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ ”کیا یہ سچ ہے کہ تم حصول اقتدار کی
خاطر امراے دربار سے ساز باز کرتے ہو اور لوگوں کو درغلانے کی خاطر
میری باتوں کا بت گڑ بناتے ہو۔ میں تم سب کو ملیا میٹ کر دوں گا“
اس مرد حق نے بادشاہ کو بر ملا ٹوک دیا اور فرمایا ”ایک ہوس پرست
اور جاہ طلب سفاک سے تو توقع بھی یہی ہے مگر تمہارا اندیشہ غلط ہے

ایک دفعہ خلوت نشینی کے دوران عروج حاصل ہوا تو مجھے تمام دنیا پیش کی گئی لیکن میں نے اُسے قبول نہیں کیا۔ ایک رات دورانِ سفر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لنگڑا بچہ ایک حرام مردہ کو کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ میرے لئے یہ بادشاہتِ مردہ ہے۔ (تیمور ایک پاؤں سے لنگڑا تھا) اور یہ سچ ہے کہ یہ دنیا مُردار ہے اور میں اِس کا طلبِ کار نہیں۔ ہم اپنا مُنہ آخرت کی طرف موڑ چکے ہیں اور دنیا کے طالب نہیں۔ ” امیر تیمور انتہائی طیش کے عالم میں بولا آپ اپنے خاندان کے سب افراد کو لے کر میری قلمرو سے جلد نکل جائیں۔

اب اس تمام عرصے میں شیبِ روز کے مجاہدوں سے آپ ایک جامع شخصیت بن گئے اور تحصیلِ علم، تربیتِ روحانی اور سیرِ عالم نے آپ کی سیرت میں علم و بصیرت، استقامت و عزیمت، صبر و شکر اور فقر و غنی کا ایک حسین امتزاج پیدا کر دیا اور آپ کی شخصیت ہر پہلو سے جامع صفات بن گئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اِس بابرکت، ستی کو جس عظیم شہنشاہ کے لئے تیار کیا تھا اب اُس کے لئے روانگی کا وقت آپہنچا۔

امیر تیمور کا جلاوطنی کا حکم سن کر حضرت میر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اُسی وقت ایک مُنجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا ” یہ خدا کا گھر ہے میں بادشاہ کے مُلک سے باہر گیا ہوں۔ “ اُس کے ساتھ ہی آپ نے سامانِ سفر درست کرنے کا حکم دیا اور رفقاء، علماء اور اہلِ سادات سے ساتھ ساتھ ہمراہی لے کر ظہر کے وقت ۱۳۶۲ء میں انہوں نے کشمیر کا رخ کیا۔

کشمیر میں آمد

سری نگر کے قریب پہنچے تو سلطان شہب الدین والئی کشمیر نے آپ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو شہر میں لایا۔ آپ نے محلہ علاء الدین پورہ میں رخت سفر کھول کر قیام فرمایا۔ اُس وقت سلطان شہب الدین والئی دہلی فیروز تغلق کے ساتھ جنگ میں الجھنے کا ارادہ کیئے ہوئے تھا۔ حضرت نے ان دو مسلمان بادشاہوں میں مصالحت کروادی اور یوں اس جنگ کی آگ سرد پڑ گئی۔ مخلوق خدا کثیر تعداد میں مشرف بہ اسلام اور منور بہ نور ایمان ہوئی۔ ایک مورخ کے قول کے مطابق صرف وادی کشمیر میں آپ کے دستِ حق پرست پر سینتیس ہزار ہندو مشرف بہ اسلام ہوئے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ امیر تیمور کا تشدد موجب بیداری بختِ جہان بن گیا۔ خصوصاً کشمیر، بلخ، بلتستان، سکردو اور گلگت اس وجہ سے آپ کے رہیں منت ہیں۔ اکل الدین محمد کمال بدشی (متوفی ۱۱۳۱ھ) کا یہ شعر اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔

گر نہ تیمور شور و شر کر دے
کے امیر اس طرف سفر کر دے

خانقاہ معلیٰ

جس جگہ سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے آپ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرتے تھے اور رشد و ہدایت اور درس و تدریس کا اہتمام کرتے تھے۔

اس جگہ خانقاہ تعمیر ہوئی جو خانقاہِ مُہدانی اور خانقاہِ شاہِ ہمدان کے نام سے منسوب ہوئی۔ یہ خانقاہ جو چوبی فنِ تعمیر کا نادر نمونہ ہے آج تک موجود ہے۔ اس تاریخی جگہ کا ابو الفضل نے آئینِ اکبری میں اور مغل شاہنشاہ جہانگیر نے ترکِ جہانگیری میں ذکر کیا ہے۔

مسجد شاہِ ہمدان :- خانقاہ کے ساتھ آگے فرزندِ حضرت میر محمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ۹۸۰ھ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی جو اب تک پوری آن بان کے ساتھ موجود ہے۔ مسجد شاہِ ہمدان سری نگر کی ایک دیوار پر یہ قطعہ کندہ ہے۔

حضرت شاہِ ہمدان کریم آیہ رحمت زکلامِ قدیم
گفت دم آخر و تاریخ شد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
منبر شریف کے اوپر حضرت شاہِ ہمدان کی رباعی ملاحظہ فرمائیں۔

اَلتَّامِسُ بِحُضُورِ عَفْوِ الرَّحْمِیْمِ

شہا زِ کرم بر من درویشِ نگر
بر حالِ من خستہ و دلِ ریشِ نگر
ہر چندِ بسمِ لائقِ بخشش تو
بر من مَنِ نگر، بر کرمِ خویشِ نگر
(میر کبیر سید علی ہمدانی)

کشمیر میں قیام

۱۳۴۳ھ بمطابق ۱۹۲۳ء میں یہاں تشریف لائے اور اپنے رفقاء و خلفاء کو جا بجا متعین فرما کر ۱۳۴۶ء میں حج کی غرض سے تشریف لے گئے۔
 ۱۳۴۸ھ (بمطابق ۱۹۲۹ء) میں دوبارہ وارد کشمیر ہوئے اور
 (بمطابق ۱۳۸۰ء) میں آپ کشمیر میں تیسری بار تشریف لائے۔
 اس تمام عرصے میں تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے ساتھ ساتھ
 آپ نے کشمیر کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور طرز معاشرت میں بھی
 ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ کسب کلاہ دوزی جو آپ نے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اختیار کیا تھا۔

امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقاء کے
 ذریعے ان دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں درس گاہیں، شفا خانے اور
 گھر گھر ہنرمندی کے مراکز قائم کر کے تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ کشمیری
 عوام کو علم و فن کی دولت سے مالا مال کر دیا اور صنعت و حرفت میں
 کمال عروج کی وجہ سے اس سارے خطے کو ایرانِ صغیر کہا جانے لگا

حسین باطنی و حسن ظاہری

اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسنِ باطنی کے علاوہ حسنِ ظاہری سے
 بھی خوب نوازا تھا آپ نہایت خوب صورت اور وجیہ تھے۔
 نہایت پرکشش اور جاذبِ نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ
 کی نگاہوں میں ایسی حسین تاثیر تھی کہ جس پر نظر التفات پڑی۔ شیدا و

فریفتہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سفر میں آپ کے ساتھ ہمیشہ عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد جو غفیر کی صورت میں رہتی تھی۔

آخری سفر :- ۱۳۸۵ھ میں اشاعتِ دین اور تبلیغِ اسلام

کی غرض سے براہِ لُذخِ ترکستان جا رہے تھے کہ راستے میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقہ کنہار میں بمقام پچھلی پٹھنچے تو یہاں کے حاکم سلطان محمد خان نے آپ کا استقبال کیا اور اُس کے اصرار پر آپ نے چند روز کے لیے یہاں قیام کرنا منظور کر لیا۔ یہیں پر آپ شدید بیمار ہو گئے۔

آخری الفاظ

آپ کا روزانہ وظیفہ بعدِ دُرود شریف ایک ہزار مرتبہ بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تھا چنانچہ چار شنبہ ۶ ذی الحج ۱۳۸۶ھ (بمطابق ۱۹ جنوری ۱۳۸۷ء) کو وفات سے قبل یہ آپ کی زبانِ مبارک سے جاری ہو گیا۔ آپ نے یَا اللہُ یَا رَفِیقُ ، یَا حَبِیبُ اور بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ورد کیا اور اپنی جان ، جانِ آفرین کے سپرد کر دی اور کتنا حسین حُسنِ اتفاق ہے کہ اذِ روئے حُرُوفِ ابجد انہی آخری کلمات سے آپ کا سالِ وفات نکلتا ہے۔ یعنی ۱۳۸۶ھ

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خداے بخشنده

آخری آرام گاہ :-

آپ کے مُردین اور عقیدت مند آپ کے جسدِ مبارک کو شیخ
قوام الدین بدشی کی رہنمائی میں مقامِ پکھلی سے موجودہ تاجکستان کے
صوبہ ختلان میں لے آئے۔ تمام راستہ بادل کا ایک ٹکڑا قافلے پر
سایا لگ رہا۔ یہ قافلہ پانچ ماہ اور انیس دن کے بعد کولاب پہنچا۔
اتنے طویل عرصہ میں نعرش مبارک غیر متغیر تھی اور اس سے مشک
کی خوشبو آتی ہے۔ یوں اس علم و فضل کے روحانی آفتاب کی
تدفین بمقام کولاب بعمر ۷۷ سال عمل میں آئی۔

کولاب کہاں ہے ؟

تاجکستان کا دارُ الخلافہ دوشنبہ ہے۔ دوشنبہ سے
بطرفِ شمال ۱۵۰ میل کے فاصلہ پر تاجکستان کے صوبہ ختلان
کا دارُ الخلافہ کولاب واقع ہے۔

حضرت امیرِ کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہیں استراحت
فرمائیں۔ کولاب کے لفظی معنی پانی کے ہیں۔ یہاں پر پانی کا بہت بڑا
ذخیرہ ہے۔ جہاں سے میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے
نہریں نکلتی ہیں۔ یہ شہر چس کی آبادی تقریباً اڑھائی لاکھ نفوس
پر مشتمل ہے۔ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ کوہِ حضرت شاہ
کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہے۔ آپ کا مزار آج بھی مرجعِ خلائق
ہے۔ روس کے ستر سالہ دورِ اشتراکیت میں اسلامی اقدار

اور نشانات کو مٹانے کی نڈموم کوشش کی گئی لیکن اس مسلم ریاست میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یعقوب چرخي رحمۃ اللہ علیہ (بمقام دوشنبہ) کے مزارات مقدسہ آج بھی موجود ہیں اور یہ دونوں باوقار ہستیاں یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے اندر ساتھ والے کمروں میں ان کی اہلیہ ماہ خراساں آسوڈ خاک ہیں۔ ساتھ بڑے بیٹے محمد احمد ہمدانی استراحت فرما ہیں دوسرے کمروں میں بیٹی ماہ تاباں اور اس کے بچوں کی چھوٹی قبور ہیں۔

خلفائے اعظم

حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے اعظم کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

صرف چند کے اسمائے گرامی درج کئے جاتے ہیں۔

۱۔ میر سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے۔

۲۔ سید تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سید حسین سمنانی کے بڑے بھائی تھے۔

۳۔ سید جمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاؤ تھے۔

۴۔ سید کمال الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاؤ تھے۔

- ۵ - خواجہ اسحق ختانی رحمۃ اللہ علیہ - آپ حضرت امیر کبیر
سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی کے شوہر اور خلیفہ مجاز تھے
- ۶ - سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ
- ۷ - سید محمد قاری رحمۃ اللہ علیہ
- ۸ - سید جلال الدین عطائی رحمۃ اللہ علیہ
- ۹ - سید فیروز المشرق سید جلال رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۰ - سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۱ - سید بہار الدین رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۲ - سید محمد کبیر زیہقی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۳ - سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۴ - حاجی حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۵ - شیخ قوام الدین بخشی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۶ - سید محمد غلام رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت امیر کبیر
سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے کے
بزرگان تھے۔
- ۱۷ - شیخ محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۸ - میر سید اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۹ - حضرت نور الدین جعفر بخشی رحمۃ اللہ علیہ خلاصۃ المناقب
آپ کی مشہور تصنیف ہے جس میں آپ نے اپنے پیرو مرشد
امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات
و ارشادات کو مفصل قلمبند کیا ہے۔

۲۰۔ مخدوم عبدالرشید حقانی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حضرت
امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا واقعہ تاریخ دارالدار،
تاریخ طہیری، تاریخ سلمیٰ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ
منورہ میں روضہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ
نے مراقبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریا عے رحمت جوش میں آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”اے عبدالرشید! تمہارا فیضان
امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تم جلد اس کے
پاس پہنچ جاؤ۔“ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک
کی تعمیل میں وہ افتاں و خیزاں ہمدان کی جانب چل پڑے اور
لیلۃ القدر ۲۷ رمضان المبارک کو جب وہاں پہنچے تو ایک مسجد
میں گئے جو حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے دو عبادت کے حجر وں کے
قریب تھی۔ آپ نے وہاں ایک بابرکت اور پُر نور بزرگ کو دیکھا
آپ کو خیال گزرا کہ یہی حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں حالانکہ وہ حضرت
کے والد کرامی حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آنے
اُن سے پوچھا۔ ”قبلہ! امیر کبیر سید علی ہمدانی آپ ہی کا اسم شریف ہے
حضرت نے جواب دیا۔“ میرا نام شہاب الدین ہے۔ سید علی ہمدانی
میرا بیٹا ہے اور وہ اس حجرے میں ہے۔“ آپ دوسرے
حجرے کے قریب مریدوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔
جب سلطان العارفین حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے
حجرے سے تشریف لائے تو آپ نے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کی طرف منظرِ الفت نہ فرمائی۔ آپ دوسرے حجرے میں داخل ہونے لگے تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے دروازے تک چلے گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جا کر فرمایا۔ ”اے عبدالرشید! اندر آجاؤ“ حضرت نے انہیں بیعت کر کے سلسلہ کبریہ میں داخل فرمایا۔ حضرت مخدوم نے دو گانہ شکر ادا کیا اور آپ کے فرمان کے مطابق مسجد کے حجرے میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”آپ کی زیارت ہوتے ہی عرش سے فرش تک کے تمام حجابات میری نظر سے دور ہو گئے۔ میں تین سال تک مسجد کے حجرے میں رہا۔ اکثر حضرت اپنے اس غلام کو اپنے حجرۂ خلوت میں یاد فرمایا کرتے اور بے پایاں فیض سے سرفراز فرماتے۔ تین سال کے بعد آپ نے مجھے میرے اصلی وطن ملتان جانے کی اجازت مرحمت فرمائی“ (ملفوظات حضرت مخدوم عبدالرشید قدس سرہ)

آپ کا مزار ملتان سے بفاصلہ ۱۳ میل ملتان و ہاڑی سڑک (جو کبھی ملتان و ملی سڑک کہلاتی تھی) پر واقع ہے۔

تصانیف شاہِ مدائن

آپ نے متعدد کتابیں لکھیں۔ تحائف الابرار میں ان کی تعداد ایک سو تتر بیان کی گئی ہے۔ کئی کتب مغلیہ دور میں شامل دریں رہیں تقریباً ستر کتب موجود ہیں۔ بقیہ نایاب ہیں۔ بہت سی کتب کے

قلمی نئے برٹش میوزیم لندن ، انڈیا آفس لائبریری ، وی آنا ،
برلن ، پیرس ، تہران ، تاشقند ، تاجکستان ،
پنجاب یونیورسٹی لائبریری ، بہاول پور ، ایشیاٹک سوسائٹی بنگال
میسور اور بانچی پورہ (بھارت) میں موجود ہیں ۔

چند ایک تصانیف یہ ہیں ۔

۱۔ ذخیرۃ الملوک ۲۔ مشارب الأذواق

۳۔ رسالہ وجودیہ ۴۔ رسالہ منامیہ

۵۔ رسالہ بہرام شاہیہ ۶۔ رسالہ درویشیہ

۷۔ رسالہ عقلیہ ۸۔ ذکر یہ

۹۔ داؤدیہ ۱۰۔ مویچک

۱۱۔ مقامیہ ۱۲۔ اعتقادیہ

۱۳۔ فقریہ ۱۴۔ نوریہ

۱۵۔ واردات امیریہ ۱۶۔ مقامات صوفیہ

۱۷۔ وہ قاعدہ ۱۸۔ مضطلمات صوفیہ

۱۹۔ اسرار النقطہ ۲۰۔ مکتوبات امیریہ

۲۱۔ چہل اسرار ۲۲۔ فتوت نامہ

۲۳۔ مناجات ۲۴۔ روضۃ الفردوس

۲۵۔ غواطریہ ۲۶۔ الانسان الکامل

۲۷۔ النسخ والمنسوخ فی قرآن المجید ۲۸۔ فی سواد النیل و بس الاسود

۲۹۔ معاش الساکین ۳۰۔ اقرب الطرق اذ لم یوجد الرفیق

۳۱۔ حل الفصوص ۳۲۔ شرح اسماء الحسنی

- ۳۳ - اختیارات منطق الطیر
 ۳۴ - آداب سفرہ
 ۳۵ - منازل السالکین
 ۳۶ - منہاج العارفین
 ۳۷ - فی علماء الدین
 ۳۸ - فقیریہ
 ۳۹ - طائفانیہ
 ۴۰ - سوالات
 ۴۱ - صفۃ الفقراء
 ۴۲ - تفسیر حروف المعجم
 ۴۳ - مُرادات دیوان حافظ
 ۴۴ - طائفۃ ہائے مردم
 ۴۵ - تلقینیہ
 ۴۶ - عقبات
 ۴۷ - سیر و سلوک
 ۴۸ - چہل مقام صوفیہ
 ۴۹ - مَشِیت
 ۵۰ - اسناد علیہ حضرت رسالت مآب
 ۵۱ - مکارم اخلاق
 ۵۲ - فی خواص اہل الباطن
 ۵۳ - اسرارِ رُوحی
 ۵۴ - مِرْآۃ السائین
 ۵۵ - کشف الخفا
 ۵۶ - غایت المکان فی دایۃ الزمان
 ۵۷ - متفرق رسائل
 ۵۸ - انسان نامہ
 ۵۹ - اورادِ فتحیہ مع دعائے رِقَاب
 ۶۰ - المودۃ فی القربی
 اِنْبِیاء فی سُلَّاسِ اَوْلِیاءِ اللہ :- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 (متوفی ۱۱۷۶ھ) اپنی اس کتاب میں اورادِ فتحیہ کے بارے میں گویا ہیں۔
 ترجمہ : کہ ایک ہزار چار سو وائی کامل کے مُتَبَرک کلام سے جمع ہوا ہے۔
 اور فتح ہر ایک کی ان میں سے ایک کلمہ میں ہوئی ہے جو
 حُضُوری کے ساتھ اپنے پر لازم کر لے اُس کی برکت اور صفائی
 مشاہدہ کرے گا۔

پرسید عزیزِی کہ علیٰ اہلِ کبائی گفتم بولایتِ علیؑ کز ہمدانم

نئے زان ہمدانم کہ ندانند علیؑ را
مَن زان ہمدانم کہ علیؑ را ہمدانم

○

ترجمہ: میرے ایک عزیز نے مجھ سے پوچھا کہ علیؑ! تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا کہ ولایت علیؑ (علیہ السلام) کی قسم میں ہمدان سے ہوں۔ لیکن میں ان ہمدان (یعنی علماء) میں سے نہیں ہوں جو علیؑ علیہ السلام کی معرفت نہیں سمجھتے بلکہ میں اس لیے ہمدان (عالم) ہوں کہ علیؑ علیہ السلام کو ہی سچے سمجھتا ہوں۔

گر مہر علیؑ و آلِ تبولت نبود امیدِ شفاعت ز رسولت نبود
گر طاعتِ حق جملہ بر آوری تو بی مہر علیؑ سچ قبولت نبود

ترجمہ: اگر علیؑ علیہ السلام اور آلِ تبولت تیرے دل میں نہ ہوتو تیرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی کوئی امید نہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت مکمل طور پر انجام دے دے تو علیؑ کی محبت کے بغیر کچھ بھی قبول نہ ہوگا۔

○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَنِي أُولَى النِّعَمِ وَالْهِمَنِي إِلَى مَوَدَّةِ
حَبِيبِهِ جَامِعِ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَمِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولًا إِلَى
كَافَّةِ الْأُمَمِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الْعَرَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ
اما بعد !

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ۔
وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (الشوریٰ)
کہہ دیں کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا بجز
قربت داروں سے محبت کے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
أَحَبُّ إِلَيَّ لَكُمْ أَرْفَدُكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَأَحِبُّونِي
لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي ۔
اللہ سے محبت کرو کیوں کہ اس نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کیں
اللہ کی خاطر مجھ سے اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

(اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ) اہل بیت رسول سے
دوستی سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی (امت) سے
قربت داروں (اہل بیت کی محبت کے سوا کچھ نہ مانگیں یہی اہل بیت
کے دوستوں کی نجات کا سبب ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے قربت کا ذریعہ ہے

جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے -

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حَشَرَ فِي زُمْرَتِهِمْ

جو کسی قوم سے دوستی کرے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔
نیز فرماتے ہیں کہ :

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوا کرتا ہے -

پس جو کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے راستے اور اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے طریقے کا طالب ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت رسول کی محبت ان کے فضائل کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور رسول اور اہل بیت رسول کے فضائل ان احادیث اور اخبار کی معرفت سے معلوم ہو سکتے ہیں جو ان کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں فضلاء امت نے علماء و فقہاء کے فضائل میں احادیث اور مسلسل حدیث کے بکثرت مجموعے جمع کئے ہیں مگر اہل بیت رسول کی فضیلت میں بہت کم جمع کئے ہیں۔ اس لئے اس گنہگار، فقیر ستید علی بن شہاب الدین علوی ہمدانی نے ارادہ کیا کہ اہل بیت رسول کے فضائل میں وارد ہونے والے اعلیٰ وجوہ کو مختصر کتاب میں جمع کرے (چنانچہ، اسے کتاب قدیم (قرآن کریم) کی آیت کے مطابق ”المودة القرآنی“ سے موسوم کیا) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میسر لے ان تک پہنچنے کا ذریعہ اور میری نجات کا وسیلہ بنائے۔ میں نے اسے چودہ مودت میں تقسیم کیا ہے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیرو اصحاب کے فضیل میرے قول و فعل کو غرض و خلل سے محفوظ و مامون رکھے اور میرے قلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر منقول کسی کلام کی طرف پھیرے

(آمین)

مودت اول
فضائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم

۱۔ عن مطلب ابن ابی وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم فاننا خيركم بيتا وخيركم قبيلة وخيركم نسبا

حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق رکھا پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا پھر خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا پس میں سب سے بہترین خاندان، سب سے بہترین قبیلہ اور سب سے بہترین نسب کے ہوں۔

سنن الترمذی ۲۴۲۵/۵ حدیث ۳۶۸۶

۲۔ وعن ابی موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله انا احمد وانا محمد وانا العاشر وانا العاقب وانا المقفى ونبي الرحمة ونبي الملحمة

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں احمد و محمد ہوں میں جمع کرنے والا اور سب کے آخر میں آنے والا ہوں اور میں

نبی رحمت اور جہاد کرنے والا نبی ہوں

(مسند احمد ۴۰۲)

۳۔ وعن ابی الطفیل عامر بن واثلۃ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ انا محمد وانا احمد
والفاتح والخاتم وابوالقاسم والحامش
والعاقب وظہ ولسیخ والماحی

حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد
واحمد ہوں، میں فاتح، انبیا کا خاتم اور ابوالقاسم ہوں
میں سب کو جمع کرنے والا اور سب کے بعد آنے والا ظہ ولسیخ
اور کفر کو مٹانے والا ہوں۔

(کنز العمال ۴۶۲/۱۱ حدیث ۳۲۱۶۹)

۴۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال قال رسول اللہ انا النبی ولا کذب انا
ابن عبد المطلب انا اعرب العرب ولدت
فی قریش ونشأت فی بنی سعد

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نبی ہوں جھوٹ
نہیں بولتا میں ابن عبد المطلب ہوں اور اصل عربی ہوں قریش
میں پیدا ہوں اور بنی سعد میں پلا ہوں

(کنز العمال ۴۰۲/۱۱)

۵۔ وعن واثله بن اسقع قال قال رسول الله ان الله اصطفٰ كنانہ من ولدتي اسمعيل واصطفٰ قریشًا من كنانہ واصطفٰ من بني قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وروى ان الله اصطفٰ من ابراهيم اسمعيل واصطفٰ من ولد اسمعيل بني كنانة -

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا - اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو چن لیا بنی کنانہ سے قریش کو چن لیا قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا۔

(صحیح مسلم ۲/۳۹۴ حدیث ۲۲۷۶)

یہ حدیث تھوڑے فرق کے یوں بھی ہے النسخ

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اور اولاد اسماعیل بنی کنانہ کو۔

۶۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلی علیہ وآلہ وسلم اناسید ولد ادم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں - کہ جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا - کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں سب پہلے میری قبر انور شق ہوگی میں اولین شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں

صہ (صحیح مسلم ۲/۳۹۴)

۷۔ وعنه قال قال رسول الله نحن الاخرون من الدنيا والاولون يوم القيامة المقضى بهم قبل الخلائق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم دنیا میں تمام نبیوں کے بعد آنے والے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والے ہیں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔

(صحیح مسلم ۱/۱۱۴ باب ۲ (تفضیل النبی علی الخلائق)

۸۔ وعن انس قال قال رسول الله انا اكثر الانبياء اتباعاً يوم القيامة وانا اول من يقع باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول انا محمد فيقول بل امرت ان لا افتح احداً قبلك

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بروز قیامت میرے ماننے (یعنی تابع دار) تمام انبیاء علیہم السلام کے تابع اؤں سے زیادہ ہوں گے۔ میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹھکھٹاؤں گا خازن پوچھے گا کون ہے میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں پس وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔

(صحیح مسلم باب ۲/۱۱۷۷)

۹۔ وعن عائشه رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ اناسید ولد ادم ولا فخر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں مگر ناز نہیں کرتا۔

(سنن الترمذی ۵ / ۲۴۷)

۱۰۔ وعن عرفجه قال قال رسول الله ان
سيف الاسلام او سابق الاسلام
حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اسلام کی تلوار ہوں اور میں سب سے پہلے (یعنی توحید پر ایمان لایا) ہوں۔ اسلام لانے والا ہوں،

(مودۃ فی القرب)

۱۱۔ وعن ابی هريرة قال قال رسول الله
بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں جوامع الکلم (قرآن مجید) کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور رعب سے مجھے مدد دی گئی ہے۔

(صحیح البخاری ۸ / ۱۳۸)

۱۲۔ وعن انس قال قال رسول الله انا سابق ولد ادم
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں بنی آدم میں سابق (پہلا) ہوں
(مودۃ القربی ۱)

۱۳۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال
رسول الله انا معاشر الانبياء يضاعف لنا البلاء
كما يضاعف لنا الاجر كان نبی من الانبياء يبتلى
بالقتل حتى يقتل وانهم كانوا يفرحون
بالبلاء كما تفرحون بالرخاء
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء علیہم السلام کے لئے
دو گنی آزمائش ہوتی ہے اسی طرح ہمارے لئے دوہرا اجر ہوتا ہے
بعض انبیاء علیہم السلام قتل کی آزمائش سے دوچار ہو
جاتے ہیں۔ بلا کی آزمائش میں وہ ایسے خوش ہوتے ہیں۔
جیسے تم خوشحالی سے

(سنن ابن ماجہ ۲/۱۳۳۵)

۱۴۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله انا
معاشر الانبياء لانشهد على جور ولو كنت
مفضلاً احداً على احد لاشرت بالبنات
بضعفهن وقلة حيلتهن

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ
نے ہم انبیاء علیہم السلام ظلم کی تائید میں گواہی نہیں دیتے
اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دینے والا ہوتا تو ان کی کمزوری

اور کمی حیلہ کی بنا پر ضرور لڑکوں پر لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔
(مودۃ فی القربی)

۱۵۔ وعن عائشة قالت قال رسول الله
انی لاعرفکم بالله واشدکم خشية
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ معرفت رکھتا ہوں اور سب سے
زیادہ اس سے ڈرتا ہوں

(المصد السابق فی المصد لاعرفکم مودۃ فی القربی)
۱۶۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول
الله متی وجبت للنبوة قال وجبت
لی وادم بین الروح والجسد۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد
فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام
نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لئے نبوت کب واجب
ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس
وقت جب کہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے۔

(سنن الترمذی ۵/۲۴۵ حدیث ۳۶۸۸)

۱۷۔ وعن جابر قال قال رسول الله ان الله
بعثنی بتمام محاسن الاخلاق وكمال
محاسن الافعال

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام

اخلاق حسنہ اور کمال افعال پسندیدہ کے مبعوث فرمایا
(کنز العمال ۱/۴۱۰)

۱۸۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ انی
رایت الانبیاء فاناشبہ ابراہیم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے انبیاء علیہم السلام
کو دیکھا پس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہوں۔
یہ حدیث اس طرح بھی درج ہے

جابر رفعہ انی رایت الانبیاء فاناشبہ
ابراہیم

(لا یوجب هذا الحدیث بتمامہ فی النسب المتوفرة لدى مؤدی تقری)

۱۹۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً وموسىٰ نجیاً
وَاتخذ نى حبیباً ثم قال وعزّتی وجلالی لا شرن
حبیبی علی خلیلی ونجیبی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو اپنا خلیل بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجی بنایا اور مجھے اپنا حبیب
بنایا پھر فرمایا عزت و جلال کی قسم میں اپنے حبیب کو خلیل و نجی
پر ضرور ترجیح دوں گا۔

(کنز العمال ۱۱/۴۰۶)

۲۰۔ وعن امیر المومنین علی ابن ابی طالب
عن رسول اللہ انہ قال خرجت من نکاح
ولم اخرج من سفاح الجاہلیہ من لدن ادم
الی ان ولدنی ابی واهی ولم یصنی من سفاح
الجاہلیہ شیء

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں نکاح سے پیدا
شدہ ہوں زمانہ جاہلیت کے زنا سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام
کے وقت سے میرے والدین کے ہاں میری پیدائش تک
جاہلیت کی (زنا کاری) مجھ تک نہیں پہنچی

(کنز العمال ۱۱/۴۰۲)

تشریح :- جس طرح حق تعالیٰ نے قبل از تخلیق عالم نور محمدی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تظہیر و توقیر ملحوظ رکھی۔ اسی طرح دنیا میں بھی
اس نور کی قدر و منزلت پوری احتیاط سے کی یعنی ہمیشہ یہ نور پاک
پشتوں سے پاک جموں میں منتقل ہوتا چلا آیا اور اگرچہ زمانہ
کفر و شرک کی تاریکیوں نے بارہا مکدر کیا لیکن حضور علیہ السلام کے
آباء کرام و امہات عظام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبد اللہ
تک اور حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا
تک متواتر موصد مسلم مومن صالح ہوتے چلے آئے اور ان میں سے
کوئی بھی کفر و شرک کی رجن سے طوث نہ ہوا اور شانِ خاتم نبوت
کا تقاضا بھی یہی تھا۔

علا جلال الدین سیوطی تفسیر منشور میں اس آیت کے تحت ابن
عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقلب فی اصلاہ
الانبیاء حتی ولدت امّہ -

(یعنی حضور علیہ السلام اصلاہ انبیاء میں پھرتے چلے آتے
حتیٰ کہ آپ کو آپ کی والدہ نے جنا)

۲۱ - وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ فضلت
علی الانبیاء بستۃ اعطیت بجوامع الکلم
ونصرت بالرعب واحلت لی الانعام وجعلت
لی الارض مسجداً وطهوراً وأرسلت الی الخلق
کافۃ وختمت لی النبوءہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چھ باتوں میں انبیاء علیہم السلام
پر فضیلت دی مجھے جامع الکلم (قرآن مجید) دیا - رعب
کے ذریعے مدد دی مال غنیمت کو حلال کر دیا زمین کو مسجد اور
پاک قرار دیا تمام لوگوں کو نبی بنایا اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا -
(کنز العمال ۱۱/۴۰۲)

۲۲ - وعن انس قال قال رسول اللہ فضلت
علی الناس باریع بالسّخاء والشّجاعة وکثرة
الجماع وشدة البطش -

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا -

لوگوں پر مجھے چار باتوں میں فضیلت دی سخاوت، شجاعت
کثرت جماع اور سختی کے ساتھ حملہ کرنا

(صحیح المسلم ۱/۲۳۶)

۲۳۔ وعن ابن عباس جلس ناس من اصحاب رسول الله وقد سمعهم يتذاكرون وقال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلاً وقال اخر فموسى كلم الله تكليماً وقال اخر فعيسى كلمة الله وروحاً وقال اخر ادم اصطفاه الله فخرج صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم وقال سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجى الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وادم اصطفاه الله وهو كذلك انا حبيب الله ولا فخر وانا صاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم ومن دونه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر واول من يحرك باب الجنة فيفتح الله لي فادخلها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کوئی بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بنایا۔

پس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور تمہارا یہ تعجب کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ روح اللہ اور آدم برگزیدہ حق ہیں ہاں ایسا ہی ہیں۔ لیکن میں جَبِیْبُ خُدا ہوں مگر میں فخر نہیں کرتا میں بروز قیامت حال لو اتے حمد ہوں جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور دوسرے ہوں گے مگر فخر نہیں کرتا میں قیامت کے دن پہلا شفیع اور پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں۔ مگر فخر نہیں کرتا۔ میں بابِ جَنّت کو پہلا کھٹکھٹانے والا ہوں پس اللہ اسے کھول دے گا۔ میں اور میرے ساتھ مومن فقراء داخل ہوں گے۔ مگر فخر نہیں کرتا میں اگلوں پچھلوں میں اللہ کے ہاں سب سے مکرم ہوں مگر فخر نہیں کرتا۔

(کنز العمال ۱۲/۴۴۲)

۲۴۔ وعن سلطان الاولياء على عليه السلام قال قال رسول الله انا اهل البيت فقد اذهب الله عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔

حضرت سلطان الاولياء علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت سے ظاہری باطن فواحش و قبائح کو دور فرمایا

(مسند الفردوس ۱/۵۴)

۲۵۔ وعن عائشه قالت قال رسول الله بنيت
اجسامنا على ارواح اهل الجنة وامرت الارض
ما كان من ان تبطله

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ارشاد
فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جسم جنتیوں
کی روح سے بنائے گئے اور زمین کو حکم ہے کہ جو ہم سے خارج
ہوں انہیں نکل لیں (یعنی بول و براز

(کنز العمال ۱۱/۴۷۷)

۲۶۔ وعن انس قال لم يكن رسول الله فحاشاً
ولا لعاناً ولا سبباً

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو نہ تھے اور لعنت کرنے والے
اور نہ ہی گالی دینے والے تھے

(الشفایہ شریف ۱/۱۰۴)

۲۷۔ وعن انس قال كانت امة من اماء
اهل المدينة تاخذ بيد رسول الله فتنطق
به حيث شاءت وسئلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ والوں
کی کوئی لونڈی آتی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ
پکڑ کر بے جانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خلیق اور
علیم تھے

(مودۃ فی القربی)

۲۸- وعن عائشه قالت ما كان رسول الله يصنع في بيته كان يكون مهنة اهله -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جو کچھ بناتے وہ گھر والوں کے کام آتے تھے۔

(مودۃ فی القربی)

۲۹- وعنها قالت ما خير رسول الله بين امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله لنفسه في شيء قط الا ان ينتهك حرمة الله فينتقم الله بها وقالت ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرؤ ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا جاتا آپ ان میں سے آسان کام کو کر لیتے بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو اگر کام گناہ والا ہوتا تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہنے اور بچنے والے ہوتے تھے

(مودۃ فی القربی)

۳۔ وعن انس قال كان رسول الله اذا صافح الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي يصرف وجهه ولم يبرك مقدما ركبتيه بين يدي من جلس له

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے (ہاتھ ملاتے) تھے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ جدا نہ کرتے جب تک دوسرا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے جدا نہ کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس وقت تک رخ پھیر لیتے جب تک وہ یعنی دوسرا آدمی، رخ نہ پھیر لے اور کبھی اپنے ہمنشین کے آگے گھٹنے بڑھا کر نہیں بیٹھتے تھے۔
(مودۃ فی القری)

۳۱۔ وعن عائشه قالت ان رسول الله ما كان يدخر شيئا للغد۔

بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب اگلے روز (کل) کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے۔

۳۲۔ وعن عبد الله بن الحارث بن حرقال ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول الله اور عبد اللہ بن حارث بن حرقرال نے روایت کی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا۔

۳۳۔ وعن عبد الله بن سلام قال كان رسول الله اذا جلس يحدث بكثير ان يرفع طرفه الى السماء

اور عبد اللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول خدا جب بیٹھتے تھے تو بات کرنے میں اپنی آنکھ اکثر آسمان کی طرف اٹھاتے رکھتے تھے۔

۳۴۔ وعن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله في الأربعين سنة مكث بمكة ثلاث عشر سنة بعد ما يوحى اليه ثم امر بالهجرة فهاجر الى المدينة فمكث بها وبعد عشر سنين مات وهو ابن ثلاث وستين سنة صلى الله عليه واله وسلم

اور عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا چالیس سال کی عمر میں پیغمبری پر مبعوث ہوئے اور وحی نازل ہونے کے بعد تیرہ برس مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ پھر خدا کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور حضرت نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور دس برس وہاں رہے۔ اور تریٹھ برس کے سن میں اس عالم فانی سے رحلت فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۳۵ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ علیہ قال
 قيل لرسول الله ادع على المشركين فقال ما بعثت
 لعانا وانما بعثت رحمة

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی
 کہ یا رسول اللہ مشرکوں کیلئے بدعا کریں۔ فرمایا میں لعنت
 کرنے کے لئے مبعوث نہیں ہوا بلکہ رحمت کے لئے مبعوث
 ہوا ہوں۔

اعلم يا اخي ان فضائل رسول الله اكثر من
 ان يحصى او او يعد وما ذكر كان اقل من القليل
 والله موفق بمودة عليه الصلوة والتحية

اے میرے بھائی! جان لے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے فضائل و مناقب شمار و حساب سے زیادہ ہیں۔ جو کچھ مذکور
 ہوئے ہیں وہ کم سے کم ہیں اللہ تعالیٰ آپ علیہ التحیۃ والثناء
 اور آل بیت کرام کی دوستی و مودت کی توفیق بخشے
 (آمین)

فضائل اہل بیت

۱۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية " ندع ابناءنا و ابنائکم " الخ رسول الله علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال اللهم هؤلاء اہلبیتی ندع ابناءنا و ابنائکم و نساءنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب (آیت) ندع ابنائنا و ابنائکم، الخ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ عابدہ ذکیہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما کو بلا یا اور فرمایا هؤلاء اہل بیتی یہی میرے اہل بیت ہیں۔

سنن الترمذی ۵ / ۳۰۱ حدیث ۳۸۰۸ باب ۸۷

فضائل علی کرم اللہ وجہہ الکریم

(صحیح مسلم ۲ / ۴۴۸ حدیث ۲۴۰۴ مستدرک الحاکم ۳ / ۱۵۰)

یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ بھی درج ذیل کتابوں میں ہے۔
عن ام سلمہ ان رسول الله جمع فاطمة وحسناً وحسیناً ثم ادخلهم تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی

حضرت اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ عابہؓ ذکیہ
سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما
کو جمع فرما کر اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے
اہل بیت ہیں۔

(طبرانی المعجم الکبیر ۵۳/۳ حدیث ۲۶۶۳ = ۳۰۸/۲ حدیث ۶۹۶)
حاکم المستدرک ۵۸/۲ حدیث ۴۰۵ طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن
۲۔ وعن سعد بن معاذ قال قال رسول الله لي يوما
وقد انصرف من الخندق يا سعد ان الله
اطلع على الارض فاخترني منها عليا وفاطمة
والحسن والحسين وانا نذير هذه الامة وعلي هاديها
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق
مراجعت کے بعد ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے سعد اللہ تعالیٰ نے زمین
کی طرف نگاہ کی پس مجھے علی کرم اللہ وجہہ الکریم فاطمہ عابہؓ ذکیہ
حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا کو اس میں سے منتخب کیا
میں اس امت کا نذیر اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہادی ہے)
(اس حدیث کو مولانا شاہ اسماعیل دہلوی نے منصب
امامت میں اس طرح لکھا ہے) صفحہ ۷۲

ان تو مروا علیا ولا اراکم فاعلمین تجروہ ہادیامہدیا
یاخذ بکم اصراط المستقیم ۔

اگر تم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو امیر بناؤ گے ۔ اور میں نہیں دیکھتا
کہ تم بناؤ گے (اگر بناؤ گے) تو ہادی مہدی پاؤ گے ۔ جو تم کو سیدھی

راہ بتائے گا۔

۳۔ وعن جابر قال كان رسول الله يقول
توسلوا بمحبتنا الى الله تعالى واستشفعوا
بنا فان بنا تكرمون وينا تحيون وينا ترقون
فاذا غاب منا غائب فمحبونا امنائنا عندا
كلهم في الجنة

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری محبت کو
اللہ تک رسائی کا وسیلہ بناؤ اور ہم سے شفاعت طلب
کرو کیونکہ ہمارے سبب تمہیں عزت، زندگی، روزی ملتی ہے
جب ہم میں سے کوئی غائب ہو جائے تو دوست دار
ہمارے امین ہیں (یعنی ہمیں ماننے والے) سب جنت
میں ہوں گے۔

اس حدیث کے ضمن میں احادیث ملاحظہ فرمائیں۔
عن علی بن ابی طالب قال قال رسول الله صلى
عليه وآله وسلم شفاعتي لامتي من اهل بيتي
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میرے
اس امتی کے لیے ہوگی جو میری اہل بیت سے محبت کرتا
ہوگا۔

(کنز العمال ۱۴ حدیث ۳۹۰۵۷)

وهستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع
بأهل البيت والصلح وأهل بيت النبوة و

فیه فضل العباس وفضلہ عملتواضعہ
للعباس و معرفتہ بعقہ

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے یہ نکتہ بھی حاصل ہوتا ہے
کہ اہل خیر صالحین اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے وسیلہ سے شفاعت طلب کرنا مستحب ہے۔

(فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۲/۴۹۷) ابن حجر عسقلانی

اذا اراد اللہ بعبد خیر اصیر هو ابع الناس الیہ
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
تو اس کو لوگوں کی حاجتوں کا مرجع بنا دیتا ہے۔

(کنز العمال ص ۶/۴)

شفاعتی یوم النقیۃ حق فمّن لم یومن بها
لم یکن من اهلها

میری شفاعت قیامت کے روز حق ہے پس جو کوئی اس
پر ایمان نہ لاتے وہ اس کا اہل نہ ہوگا۔
(یعنی میری شفاعت کا)

(کنز العمال ۱۴/۳۹۹ حدیث ۵۹۰۵۹)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم الشفاء خمسۃ القرآن والرحم والامانۃ
ونبیکم اہل بیتہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
نے ارشاد فرمایا۔ شفاعت کرنے والے پانچ ہیں۔ قرآن مجید
رشتے دار، امانت دار اور تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اس کے اہل بیت

(کنز العمال ۱۴/۳۹۰۴۱)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے۔

أَلَا النَّبِيُّ ذَرِيعَتِي وَهُمْ وَسِيلَتِي أَرْجُوا بِهِمْ أَعْطَى
عَنْدَ بَيْدِ النَّبِيِّ صَحِيفَتِي

اَل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اور مجھے
امیر ہے کہ ان کے وسیلہ سے کل بروز قیامت میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ
میں دیا جائے گا۔

(الصواعق المحرقة علی اہل الرض والضلال والزندقۃ ۱۸۰)

(ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ)

۴۔ وعن ابی ریحاح مولیٰ اُم سلمۃ قال قال
رسول اللہ لو علم اللہ تعالیٰ فی الارض عباداً
اکرم من علی وفاطمہ والحسن والحسین
لامرنی فی ان اباہل بہم ولکن امرنی
بالمباہلۃ مع هؤلاء وہم افضل الخلق
فغلبت بہم النصاری

حضرت ابو ریحاح غلام اُم سلمہ رضی عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر
اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ایسے عبادت گزار لوگوں کو جاننا
جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ عابدہ ذکیہ حضرت
حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما سے افضل اور
بہتر ہوں تو ضرور مجھ کو حکم دیتا کہ میں ان کو اپنے ہمراہ لے کر
مباہلہ کروں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ ان ہی چاروں کو
کہ یہی تمام مخلوق سے افضل ہیں اپنے ساتھ لے کر مباہلہ
کروں پس میں ان کے سبب نصاریٰ پر غالب ہوا۔

ایک روایت میں یوں بھی لکھا ہے ۔

عن جمیع بن عمیر قال دخلت مع عمتی
علی عائشہ فسالت اى الناس کان احب
الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قالت فاطمہ من الرجال قالت زوجها
ان کان ما علمت صواما قواما ۔

حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی
پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
اور میں نے ان سے دریافت کیا لوگوں میں سے جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا تو انہوں
نے فرمایا حضرت فاطمہ عابدہ ذکیہ رضی اللہ عنہا پھر سوال کیا گیا کہ
مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے ، تو انہوں نے فرمایا حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کثرت کے
ساتھ روزے رکھتے اور قیام کرتے تھے

(رواہ الترمذی فی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل فاطمہ)

۵۔ وعن محمد بن حنفیہ عن ابیہ علیہ السلام
قال انی لئن ایدم یوما اذا دخل رسول الله فنظر الی
وحزکتی برجلہ وقال لی قم فیدی
بک ابی احمی فان جبرئیل اتانی فقال لی بشر
هذابان الله تعالی جعل الائمة من ولده و
ان الله تعالی لغفرله ولذریته ولشیعته
ولمحبیه وان من طعن علیه ویحبس
حقه فهو فی النار ۔

حضرت محمد بن غفیر اپنے والد (حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سویا ہوا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ کی مجھے اپنے پاتے مبارک سے حرکت دے کر فرمایا (اے علی) تم پر میرے ماں باپ قربان ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے اور کہا کہ علی کو بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اولاد اور محبت رکھنے والے دوستوں کو بخش دیا جو ان پر طعن کرے اور ان کا حق چھینے وہ جہنم میں جاتے گا۔

قارئین کرام اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑے ہوتے مدینہ کے بعض باغوں میں تشریف لے گئے اچانک درخت میں سے آواز آئی۔

ہذا محمد سید الانبیاء و هذا علی سید الاولیاء
ابو الامتہ الطاہرین۔

یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اولیاء کے سردار اور ائمہ طاہرین کے باپ (والد) ہیں۔
(بحوالہ تاریخ مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

کوئی چاہے کہ رحمت خداوندی میں شام کرے اور رحمت
خداوندی میں صبح کرے پس اس امر کی بابت اس کے
دل میں کسی طرح کا شک ہرگز نہ کرے کہ میری ذریت
طاہرہ سب ذریتوں سے افضل ہے اور میرا وصی تمام
اوصیا سے بہتر ہے۔

ایک حدیث مبارکہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔

انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاوصیا
آقا علیؑ سلام کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اے
علیؑ تیرے بعد کوئی وصی نہیں

(کنوز الحقائق علی ہاشم الجامع الصغیر ج ۱ ص ۸۰)

۸ وعن علی قال قال رسول الله توضع يوم القيمة
منابر حول العرش لشيعة وشيعة اهل
بیتي المخلصين في ولايتنا ويقول
الله تعالى هلموا يا عبادي انشر عليكم
كرامتي فقد اوديتكم في الدنيا

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
عرش الہی کے گرد میرے اہل بیت کے دوستوں
(یعنی ماننے والوں) کے لیے منبر رکھے جائیں گے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے گا کہ میرے بند و آؤ میں
تم پر اپنا کرم بچھاؤ اور کروں تم دنیا میں بہت اذیت
سہہ چکے ہو۔

کوئی چاہے کہ رحمت خداوندی میں شام کرے اور رحمت
خداوندی میں صبح کرے پس اس امر کی بابت اس کے
دل میں کسی طرح کا شک ہو گا نہ کرے کہ میری ذریت
طاہرہ سب ذریعوں سے افضل ہے اور میرا وصی تمام
اوصیا سے بہتر ہے۔

ایک حدیث مبارکہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔

انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاوصیا
آقا علیؑ لام کا فرمان ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اے
علیؑ تیرے بعد کوئی وصی نہیں

(کنوز الحقائق علی ہاشم الجامع الصغیر ج ۱ ص ۸۰)

۸ وعن علی قال قال رسول الله توضع يوم القيمة
منابر حول العرش لشيعة وشيعة اهل
بيتي المخلصين في ولايتنا ويقول
الله تعالى هلموا يا عبادي انشر عليكم
كرامتي فقد اوديتكم في الدنيا

حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
عرش الہی کے گرد میرے اہل بیت کے دوستوں
(یعنی ماننے والوں) کے لیے منبر رکھے جائیں گے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے بند و آؤ میں
تم پر اپنا کرم بچھاؤ اور کروں تم دنیا میں بہت اذیت
سہہ چکے ہو۔

۹۔ وعنه عليه السلام قال قال رسول الله
يا علي خلفت من شجرة وخلقتم منها
وانا اصلها وانت فرعها والحسن والحسين
اغصانها ومحبونها اوراقها فمن تعلق
بشيء منها ادخله الله الجنة

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے
علی مجھے ایک درخت سے پیدا کیا ہے اور تجھے
بھی اس سے پیدا کیا ہے۔ پس میں اصل اور
تم اس کی فرع ہو حسن حسین شاخیں اور ہمارے
محب اس کے پتے ہیں جو اس سے وابستہ ہو جائے
گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔

۱۰۔ وعنه عليه السلام ايضا قال قال رسول الله
من احب ان يتمسك بالعروة الوثقى
فليتمسك بحب علي ابن ابي طالب واهل بيته
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو عروہ (و وثقی یعنی
مضبوط دستہ) کو پکڑنا چاہے اسے چاہیے کہ علی
اور میرے اہل بیت کی محبت کو تھام لے۔

۱۱۔ وعن ابن عباس قال قال رسول الله انا ميزان العلم وعلى كفتاه والحسن والحسين خيوطه والفاطمه علاقته والائمة من بعدى عموده يوزن اعمال المحبين لنا والمبغضين علينا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ میں میزان علم ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ڈوری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا چوٹی اور ائمہ اس کا ستون ہیں۔ جس میں ہمارے دوستوں اور ہمارے دشمنوں کے اعمال وزن کئے جائیں گے۔

(الفردوس الدلیلی ۱/ ۲۳)

۱۲۔ وعن انس قال قال رسول الله انا معشر بني مطلب سادة اهل الجنة انا وعلی وحمزه وجعفر والحسن والحسين والمهدي عليهم السلام

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم بنی مطلب کا گروہ اہل جنت کے سردار ہیں یعنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اور حضرت مہدی آخر الزماں

(کنز العمال ۱۲ / ۹۸ حدیث ۳۴۱۶۲)

۱۳- وعن ابی رافع قال قال رسول اللہ ﷺ
 ال محمد لا یحل لہم صدقة وان موالی
 القوم المومنین منهم

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے لیے صدقہ حلال نہیں اور مومن قوم کے سردار انہی
 میں سے ہوں گے۔

(سنن النسائی ۱/ ۱۰۷ باب موالی القوم منهم)

۱۴- وعن حذیفة وابن عمر قال قال
 رسول اللہ ﷺ اول نساء العالمین خدیجة بنت
 خویلد واول من اشفع يوم القيامة اهلبيتي
 ثم الاقرب فالاقرب ثم الانصار ثم
 من امن بي واتبعني ثم اهل اليمن ثم
 شاع العرب ثم العاجم ومن اشفع له
 اولاً فهو افضل

حضرت حذیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت
 کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا
 نے مجھ پر ایمان لائی سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت
 کروں گا پھر درجہ بدرجہ قریبیوں کی پھر انصار کی پھر مجھ پر
 ایمان لانے اور پیروی کرنے والوں کی پھر اہل یمن کی پھر تمام
 عربوں کی پھر اہل عجم کی جس کی شفاعت میں پہلے کروں وہ افضل
 (طبرانی اور دارقطنی نے بیان کیا (اسعاف الراغبین علی ہامش نو البصائر ۱۱۲)

۱۵۔ ومن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ
انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ جبل ممدودٌ
من السماء الی الارض وعترتی اہلبیتی لن یفترقا
حتی یردا علی الحوض

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں
چھوڑ رہا ہوں۔ اول کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک پھیلی
ہوتی رسی ہے اور میری عترت (اہل بیت) یہ دونوں ہنجر
جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے۔

(المنقب لابن المغازلی ۲۳۵ حدیث ۲۸۲ مسند احمد ۳/۴۱۲ (۲۶۱)
۱۶۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ
حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ یَوْمًا خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ
وَمِنْ مَاتَ عَلَیْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد
کی محبت کا ایک دن ایک سال کی عبادت سے افضل ہے
جو اس پر مرے جنت میں داخل ہوگا۔

(ذخائر العقبی ۲۰ محب طبری) نور الابصار ۱۰۳

۱۷۔ وعن علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ
مثل اہلبیتی کمثل سفینۃ نوح من تعلق
بہانجی ومن تخلف عنہا دخل فی النار۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت

سفینہ نوح کی مانند جو اس پر چڑھ گیا نجات پا گیا اور جو
روگرداں ہوا وہ دوزخ میں جاگرا

(فی سند الفردوس ۱ / ۲۳۸)

۱۸۔ وعنه عليه السلام قال قال رسول الله
اربع انا شفيع لهم يوم القيامة المكرم
لذريتى والقاضى لهم حوائجهم و
الساعى لهم فى امورهم عندما اضطروا
اليه والمحب لهم بقلبه ولسانه
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت چار قسم
کے آدمیوں کی شفاعت کروں گا جو میری ذریت
کی تکریم اور ان کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ جو بوقت
مجبوری ان کے امور میں سعی کمرے گا اور جو دل و زبان
سے انہیں دوست رکھے گا۔

(کنز العمال ۱۲ / ص / حدیث ۳۲۱۸۰)

۱۹۔ وعنه عليه السلام قال قال رسول الله
ليس في القيامة راكب غير اربعة قال فقال
رجل اليه من الانصار فقال فداك ابى
واخى يا رسول الله انت ومن قال اننا على
ناقة البراق واخى صالح على ناقة التي
عقرت وعى حمزه على ناقة الغضباء

واخی علی علی ناقۃ من نوق الجنة بیده
لواء الحمد فیکف بین یدی عرش
رب العالمین فیکول لا الہ الا اللہ حمد
رسول اللہ قال فیکول ادمیون ما هذا الاملک
مقرب او نبی مرسل او حامل عرش
رب العالمین قال فینادی مناد من بطنان
العرش یا معشر الادمیین ما هذا املک
مقرب ولا نبی مرسل ولا حامل
عرش رب العالمین هذا الصدیق
الاکبر علی ابن ابی طالب -

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ۴ آدمیوں
کے سوا کوئی سوار نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
یہ سن کر ایک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ایک تو آپ ہوں گے۔
باقی کون ہیں فرمایا میں براق نامی اونٹ پر سوار ہوں گا میرا بھائی
حضرت صالح علیہ السلام، اسی اونٹنی پر سوار ہوگا۔ جیسے ان کی قوم
نے ذبح کر دیا تھا۔ میرا چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ میرے
اونٹ غضبہ پر سوار ہوگا۔ اور میرا بھائی (حضرت علی رضی اللہ عنہ)
ایک جنتی اونٹنی پر سوار ہوگا۔ ہاتھ میں لواء الحمد لیئے وہ
عرش الہی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پڑھیں گے۔ پس لوگ کہیں گے کہ یہ تو ملک المقرب ہے۔

یابی مرسل یا حامل عرش۔ اس وقت عرش کے وسط سے
آواز آئے گی کہ یہ ملک مقرب ہے نہ نبی مرسل اور نہ ہی
حامل العرش رب العالمین بلکہ یہ تو صدیق اکبر علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ ہیں)

(کنز العمال ۱۳/۱۵۳ حدیث ۳۶۴۸)

۲۰۔ وعن عكرمة عن ابن عباس قال خط
رسول الله في الارض خطوطاً اربعة ثم قال
اتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم
قال افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت
خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم
بنت عمران واسية بنت مزاحم امرأة فرعون
حضرت عکرمہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت
کرتے ہیں۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
زمین پر چار لکیریں کھینچیں پھر صحابہ سے پوچھا کہ جانتے
ہو کہ یہ کیا ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ الجمیعین نے عرض کیا اللہ اور
اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی بہتر جانتے والے ہیں
یہ جواب سن کر فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد
حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مریم سلام اللہ علیہا
بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون جنتی
عورتوں میں سے افضل ہیں

(مجمع الزوائد ۹/۲۲۳)

۲۱ - وعن احمد بن حنبل قال رأيت رسول الله
في النوم فقال لي يا احمد هلك في قول
الشافعي محمد بن ادريس عن حديثي
من حفظ من امتي اربعين حديثاً من
السنة كنت له شافعاً يوم القيامة ما
عرفت ان فضائل اهل بيتي من السنة

حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ
میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا
مجھ سے فرمایا کہ اے احمد تم نے شافعی سے مروی میری اس
حدیث میں شک کیا میری سنت سے متعلق میرا کوئی امتی
چالیس حدیثیں یاد کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع
ہوں گا تم نے نہ سمجھا کہ میرے اہل بیت کے فضائل
کا بیان بھی میری سنت میں سے ہے۔

۲۲ - عن عائشة بنت عبد الله بن عاصم التميمي
بمدينة رسول الله وكانت مجاورة بها قالت حدثني
ابي عن اوائل عن نافع عن ام سلمة انها
قالت سمعت رسول الله يقول ما من قوم
اجتمعوا يذكرون فضائل محمد وآل محمد
الا هبطت الملائكة من السماء حتى الحقوا بهم
بحدیثهم فاذا تفرقوا عرجت الملائكة الى
السماء فيقول لهم الملائكة الاخر ان انستم

رَاحَةً مِنْكُمْ مَا شِئْنَا رَاحَةً أَطِيبَ مِنْهَا
 فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلَ
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ نَعْطِرُونَ وَأَمِنْ رِجْلِهِمْ
 فَيَقُولُونَ أَهْ بِطَوَابِنَا إِلَيْهِمْ فَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ
 قَدْ تَفَرَّقُوا فَيَقُولُونَ أَهْ بِطَوَابِنَا إِلَى الْمَكَانِ
 الَّذِي كَانُوا فِيهِ

حضرت عائشہ بنت عبد اللہ التیمی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
 جو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاورہ تھیں میرے والد نے
 حضرت اہل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نافع سے یہ حدیث
 روایت کی حضرت اُم سلمیٰ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی قوم فضائل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا تذکرہ کرتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ یہاں تک
 کہ ان کی گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔ جب وہ قوم وہاں
 سے منتشر ہو جاتی ہے تو فرشتے آسمان میں چلے جاتے ہیں۔
 ان سے دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہم تم سے ایسی
 خوشبو سونگھتے ہیں۔ جسے ہم نے اب تک کبھی نہیں پایا
 وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم فضائل محمد و آل محمد کا تذکرہ کرنے والی
 ایک قوم کے پاس تھے۔ ہمیں ان کی خوشبو نے معطر
 کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے چلو فرشتے جواب
 دیتے ہیں کہ وہ منتشر ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس
 جگہ سے چلو جہاں وہ تذکرہ کرتے تھے۔

۲۳ - وعن الامام جعفر بن محمد الصادق
 عن ابائہ علیہم السلام عن رسول اللہ
 انہ قال من احبنا اهل البيت فليحمد اللہ
 على اولى النعم قيل وما اولى النعم
 قال طيب الولادة ولا يحبنا الا طابت ولادته
 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد سے
 روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے دوستی رکھے
 اسے چاہیے کہ یعنی بہترین نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد
 بیان کرے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اولى النعم
 کیا ہے فرمایا کہ پیدائش کا پاکیزہ ہونا کیونکہ ہم سے وہی
 محبت رکھتے ہیں جو حلال زادہ ہو۔

۲۴ - وعن جابر قال قال رسول اللہ الزموا
 مودتنا اهل البيت فان من لقي اللہ
 وهو يودنا دخل الجنة معنا والذي
 نفس محمد بيده لا ينفع عبدًا عمله
 الا بمعرفة حقنا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت
 کی دوستی اختیار کرو۔ کیونکہ جو ہماری شفاعت سے جنت
 میں جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری

جان ہے کسی بندے کو ہمارے حق کی معرفت کے بغیر
اس کا عمل کچھ فائدہ نہیں دے گا۔

۲۵۔ وعن جبیر بن مطعم قال قال رسول الله
الست بوليكم قالوا بلى يا رسول الله
قال عليه السلام انى اوشك ان ادعى
فاجيب فالى تارك فيكم الثقلين
كتاب رينا وعترتي اهل بيتي فانظروا
كيف تحفظوني فيها۔

حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارا
آفتا نہیں ہوں جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عنقریب میں بلایا جاؤں گا۔ میں
تمہارے درمیان دو گمراہ و درجینیں چھوڑنے
والا ہوں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت پس
دیکھو تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔

(جامع ترمذی ۲/ص ۲۱۹)

فضائل حضرت علی اکرم وجہہ کریم مودت سوم

۱۔ وعن عطاء قال سئلت عائشه عن
علی قالت ذالك خير البشر لا يشك
الا كافر

حضرت عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اکرم وجہہ کریم
کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا
تو انہوں نے فرمایا علی اکرم اللہ وجہہ الکریم خیر البشر ہیں اس
میں کوئی کافر ہی شک کرے گا

(غایۃ المرام ۴۵۰ باب حدیث ۳)

۲۔ وعن علی قال قال رسول الله لی ، انت
خير البشر ما شك فيه الا كافر

حضرت علی اکرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خیر البشر ہو
اس میں کوئی کافر ہی شک کرے گا۔

۳ - وعن حذيفة قال قال رسول الله
عليه السلام خير البشر من ابى فقد كفر

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ الکریم خیر البشر ہے جس نے شک کیا اس
نے کفر کیا

(کنز العمال ۱۱/۶۲۵)

قارئین کرام ان تینوں حدیثوں کی تائید ان احادیث سے
بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
علی خیر البشر من شک فیہ کفر

علی خیر البشر ہے جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے
سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

علی خیر البشر من ابى فقد كفر

علی خیر البشر ہے اور جو انکار کرے وہ کافر ہے

(کنوز الحقائق ج ۲/۱۶-۱۷)

(مسند الفردوس ۳/۵۱۷)

۴ - وعن امير المؤمنين علي قال قال
رسول الله بغض علي كفر وبغض بني
هاشم نفاق

حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت

علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض رکھنا کفر اور نبی ہاشم
سے بغض رکھنا تفاق ہے۔
(کنز العمال ۱۱ / ۶۲۲)

۵۔ وعنہ عن النبی لا یحب علیاً الا
مومن۔ ولا یبغضہ الا کافر
حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت
ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ علی سے محبت صرف مومن اور ان سے بغض صرف
کافر رکھتا ہے یہ حدیث اس طرق پر بھی ہے۔
عن علی قال لقد عہد الی النبی الامی انہ لا
یحب الا مومن ولا یبغض الا منافق
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا اے علی مومن
ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض
رکھے گا

(اخر الترمذی فی اسنن کتاب المناقب باب علی بن ابی طالب
۵ / ۶۲۳)

۶۔ وعنہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ
ان اللہ اشرف علی الدنیا فاخترنی علی
رجال العالمین ثم اطلع الثانیة فاخترک

عَلَى رِجَالِ الْعَالَمِينَ ثُمَّ اطَّلَعَ الثَّالِثُ
فَاخْتَارَ الْاِثْمَةَ مِنْ وُلْدِ كَيْ عَلَى رِجَالِ
الْعَالَمِينَ ثُمَّ اطَّلَعَ الرَّابِعَةُ فَاخْتَارَ فَاطِمَةَ
عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف دیکھا اور مجھے تمام مردوں سے
منتخب فرمایا پھر بار دوم دیکھا تو تمام مردوں سے علی کو
منتخب کیا پھر بار سوم دیکھا تو تمہاری اولاد سے ائمہ کو
منتخب کیا فرمایا پھر چارم بار دیکھا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو
دنیا کی تمام عورتوں سے منتخب کیا۔

، - وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي - وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ
سَبَّ اللَّهَ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے
علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی
اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی

المستدرک الحاکم ۲۲۱/۳

۸۔ وعن جابر قال قال رسول الله على خير البشر
من شك فيه كفر

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کرم اللہ وجہہ الکریم
خیر البشر ہے اس میں کافر ہی شک کریگا۔

(الفردوس ۶۲/۳ حدیث ۴۱۷۵)

۹۔ وعن ابن عباس قال قال رسول الله على
باب حطة من دخل فيه كان مومنا ومن
خرج عنه كان كافرا

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم
باب حط ہے جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہے جو اس
سے نکل گیا وہ کافر ہے

(مسند الفردوس الدیلمی ۶۲/۳ حدیث ۴۱۷۹)

تشریح باب حط =
باب حط بنی اسرائیل کے لئے بمنزلہ کعبہ کے تھا جو بیت المقدس
یا اس کے قریب اریحانامی بستی کے سات دروازوں میں سے
ایک تھا اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ
کرنانا گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔

۱۰ - وعن الامام الباقر محمد بن علي عن
 ابائه عليهم السلام سُئِلَ رسول الله عن
 خير الناس فقال خيرها واتقائها وافضلها
 واقربها من الجنة اقربها مني ولا فيكم اتقا
 ولا اقرب الي من علي ابن ابي طالب عليه السلام
 حضرت امام محمد باقر بن علي رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد سے
 روایت کرتے ہیں کہ بہترین شخص کے متعلق جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں
 سب بہترین متقی اور افضل جنت سے اور مجھ سے قریب
 ہوتا ہے تم لوگوں میں علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے زیادہ کوئی متقی
 ہے نہ مجھ سے قریب ۔

۱۱ - وعن جميع بن عمير قال قلنا عائشة
 كيف كان منزلة علي من رسول الله قالت
 كان اكرم رجالنا عند رسول الله

حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نے
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا
 مرتبہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مردوں میں سب
 زیادہ مکرم تھا ۔
 (در السجادة للشوكاني ۲۷۳)

۱۲۔ وعن ابن عمر قال قال رسول الله خير رجالكم علي ابن ابی طالب وخیر شبانکم الحسن والحسین وخیر نسائکم فاطمة بنت محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام

حضرت عمر اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہترین فرد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے جو انوں میں افضل حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں اور عورتوں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(کنز العمال ۱۰۲/۱۲ حدیث ۳۴۱۹۱) (مسند فاطمہ الزہرا)
(امام سیوطی ۱۲۷)

۱۳۔ وعن عروۃ عن عائشة قالت قال رسول الله ان الله قد عهد الى ان من خرج على علي فهو كافر في النار واجدر بالنار قيل لم خرجت عليه قالت انا نسيت هذا الحديث يوم الجمل حتى ذكرته بالبصرة وانا استغفر الله

حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم

کے خلاف خروج کرے وہ کافر دوزخی ہے اور وہ جہنم کے لائق ہے سوال کیا کہ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف خروج کیوں کیا جواب دیا کہ یوم جمل میں یہ حدیث بھول گئی تھی۔ بصرہ میں مجھے یاد آیا میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں۔

۱۴۔ وعن ابی سالم ابن ابی الجعد قال قلت لجابر حدیثی عن علی قال کان من خیر البشر قال قلت یا جابر ما تقول فی من یبغض علیاً قال ما یبغضہ الا کافر

حضرت ابوسالم بن ابوجعد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق کوئی بات سناؤ کہ بہترین لوگوں میں سے تمہارا میں نے کہا یا جابر اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض رکھے جواب دیا ان سے کافر کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا۔

۱۵۔ وعن ہاشم بن البرید قال قال عبد اللہ ابن مسعود قرأت سبعین سورۃ من فی رسول اللہ وقرأت البقیۃ من اعلم هذه الامۃ بعد نبینا علی ابن ابی طالب

حضرت ہاشم بن البرید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود

رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے سیکھا باقی سورۃ امت کے سب سے
عالم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے

۱۴

وعن محمد بن سالم البزار قال كنت
مع سعيد ابن المسيب في الروضة يوم الجمعة
فجاء خطيب من بني امية عليهم اللعنة فصعد
المنبر فذكر امير المؤمنين وقال ان رسول الله
لم يدنه من محبته وانما ادناه ليكف شره
قال كان ابن المسيب لعن عليه فاته منوعا
مرعوباً فقال اكفرت بالذي خلقت من تراب
ثم من نطفه ثم سواك رجلاً ثم اخذ
ثوبه على فيه فقالوا مالك يا ابا محمد
والامام من بني امية فقال والله ما ادرى ما
قال الا اني سمعت رسول الله يقول من القبر
هذا القول فقلته كما قال

حضرت محمد بن سالم البزار ^{رضی اللہ عنہ} روایت ہے میں سعید بن مسیب ^{رضی اللہ عنہ}
کے ہمراہ جمعہ کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس
میں تھا پس بنو امیہ کا خطیب آیا اور منبر پر بیٹھ گیا۔ حضرت
امیر المؤمنین کا ذکر کیا اور کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی کو محبت کی بناء پر اپنا مقرب نہیں بنایا تھا۔ بلکہ ان کے
شر سے بچنے کیلئے ایسا کیا تھا خطیب کی یہ بات سن کر سعید

نے ان پر لعنت کی اور اسے ایسا کہنے سے منع کرتے ہوتے اس کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تو منکر خدا ہو گیا ہے جس نے تمہیں مٹھی بھر نطفے سے پیدا کیا پھر صورت مرد پر درست کیا سعید ابن مسیب نے یہ کہتے ہوئے اپنے پاس موجود کپڑے سے خطیب کا منہ بند کر دیا یہ حال دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ اے ابو محمد تم یہ کیا کر رہے ہو حالانکہ یہ خطیب بنی امیہ میں سے ہے انہوں نے جواب دیا کہ بخدا میں نہیں جانتا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ مگر جو میں نے اسے کہہ دیا ہے یہ وہ بات ہے جسے میں قبر انور سے سُن رہا ہوں

۱۷۔ وعن ام ہانی بنت عبد المطلب
قالت قال رسول اللہ افضل البریۃ عند اللہ
من نام فی قبرہ ولمیشک فی علی
وذریۃ انہم خیر البریۃ

حضرت ام ہانی بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر شخص وہ ہے جو اپنی قبر میں اس حال میں داخل ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آل علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے افضل ہونے میں اسے کوئی شک نہ ہو

۱۸ - وعن جابر قال ما شك فيه الا كافر
يعني عليًا وقال والله ما كنا نعرف
منافقين في عهد رسول الله الا ببغضهم عليًا
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ۔ حضرت
علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں منافق کے سوا کوئی
شک نہیں کرتا نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منافقوں کو جو ہم میں موجود تھے
فقط ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دشمن رکھنے کے سبب
سے پہچان کرتے تھے ایک حدیث یوں بھی ہے ۔
عن زر قال قال علي لا يبغضنا منافق ولا

يبغضنا مومن

حضرت زر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا
منافق شخص کبھی بھی ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا مومن شخص
کبھی بھی ہمارے ساتھ بغض نہیں رکھتا

(ابی شیبہ المصنف ۶/۳۷۲)

۱۹ - وعن سعيد بن جبیر قال كنت اقود
ابن عباس بعد ما ذهب بصره من المسجد
فمرّ بقوم يسبون عليًا فقال ردني اليهم
فرودته اليهم فقال ايكم سبّاب
الله فقالوا سبحان الله من سبّ الله فقد
كفر فقال ايكم سبّ عليًا قالوا

ما هذا فقد كان فقال اشهد بالله والله
قد سمعت رسول الله يقول من سب علياً
فقد سبني ومن سبني فقد سب الله
ومن سب الله ورسوله يوشك ان ياخذه
ثم انصرف يعني ابن عباس

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بصرہ
میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے مسجد
لے جا رہا تھا۔ پس ہم ایک جماعت کے پاس سے گزرے
جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ان کے
پاس لے چلو میں انہیں وہاں لے گیا تب انہوں نے
لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو گالی دے
رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ! ایسا کون کافر
ہوگا جو اللہ کو گالی دے؟ پھر پوچھا تم میں سے کون ہے
جو (حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم) کو گالی دے رہا ہے۔

وہ بولے یہ تو ہم سب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی اور جس نے
مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور جس نے اللہ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی عنقریب اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ
کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے چل دیئے

امیر المومنین سید الواصلین محبت الہی علی المرتضیٰ اکرم و جہیم

مودت چہارم

۱۔ وعن محمد بن الحسن بن علی عن ابیہ
عن جدہ النبی قال ان فی اللوح المحفوظ
تحت العرش مکتوباً علی ابن ابی طالب

امیر المومنین -
حضرت محمد بن حسن رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد سے روایت
کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ
حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین ہیں۔

۲۔ وعن انس قال کنت مع النبی
فاقبل علی فقال النبی ہذا حبة اللہ
علی امتی یوم القیامة من عند اللہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا حضرت علی
اکرم اللہ وجہہ الکریم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میری امت پر قیامت کے دن
حجّت الہی ہیں

(المناقب لابن المغالی ۴۵ حدیث ۶۷)

۳۔ وعن عباس نظر النبی الی علی فقال
انت سید فی الدنیا وسید فی الاخرة
من احبک فقد احبنی حبیبک حبیبی
وحبیبی حبیب اللہ وعدّو ک عدّوی وعدّوی
عدّو اللہ والویل لمن ابغضک من بعدی
حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جانب دیکھا
اور ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اور آخرت میں سردار ہو جو تم
سے دوستی رکھے گویا اس نے مجھے دوست رکھا تمہارا دوست
میرا دوست ، میرا دوست اللہ کا دوست ہے تیرا دشمن میرا
دشمن میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے جو میرے بعد تم سے بغض
رکھے اس کیلئے بربادی ہے

(مسند الفردوس الدیلمی ۵/ ۳۲۴ حدیث ۸۳۲۵)

۴۔ وعن ابن عباس قال دعانی رسول اللہ
فقال لی اشرک انّ اللہ ایدنی لسیّد الاولین
والاخرین والوصیین علی فجعلہ کفوی
فان اردت ان تتورع وتنفع فاتبعہ۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم اگلوں کچھپوں اور اوصیاء کے سردار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذریعے مدد دی اسے میرا ہمسر بنایا اگر تم پرہیزگار بننا اور نفع لینا چاہتے ہو تو اس کی اتباع کریں۔

۵۔ وعن بريدة قال قال رسول الله كل نبي وصي ووارث وان عليا وصي ووارث
حضرت برید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی وصی اور وارث ہوتا ہے۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میرا وصی اور وارث ہے۔
(المناقب لابن المغازلی ۲۳۸/۲)

۶۔ وعن حذيفة قال قال رسول الله لو علم الناس ان عليا مسمى سمي امير المؤمنين ما انكروا فضله سمي امير المؤمنين وام بين الروح والجسد
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت علی کب امیر المؤمنین کے نام سے نامزد ہوتے تو کبھی ان کی فضیلت کا انکار نہ کریں حضرت علی اس وقت

امیر المؤمنین کے نام سے نامزد ہوتے جب کہ آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے۔

، - وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
متی وجبت لك النبوة قال قبل ان یخلق اللہ
ادم ونفخ الروح فیہ وقال واذا خذ ربك من
بنی ادم من ظہورہم ذریۃہم واشہدہم
علی انفسہم الست بربکم قالت الارواح
بلی فقال اللہ انا ربکم ومحمد نبیکم
وعلی امیرکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نبوت
کب لازم ہوئی تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور
اِس میں روح پھونکنے سے پہلے میری نبوت لازم
ہو گئی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ان کی پشتوں
کی اولاد سے انہیں اپنے نفسوں پر گواہ بنا کر عہد لیا کہ کیا
میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو ارواح نے جواب دیا کیوں
نہیں تو اللہ نے فرمایا ہاں میں تمہارا رب ہوں ،
محمد تمہارا نبی اور علی تمہارا امیر ہے۔

(کنز العمال ۱۱/۴۵۰ حدیث ۱۱۶۱۳۲)

۸۔ وعن عتبة بن عامر الجهني قال بايعنا رسول الله على قول ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد انبيءه وعليًا وصيّه، فنامي من الثلثة تركناه كفرنا۔ وقال لنا احبوا هذا يعني عليًا فان الله يحبّه واستحيوا منه فان الله يستحي منه۔

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی اور علی اس کا وصی ہے اگر ان میں سے ایک بھی ترک کریں تو ہم کافر ہو جائیں اور ہم سے فرمایا کہ تم انہیں یعنی حضرت علی کو دوست رکھو اور ان سے جیا کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا ہے اور ان سے جیا کرتا ہے۔

(نیابیع المودۃ لذوی القربی جلد اول ۲۸۰ حدیث ۸۰۴)

۹۔ وعن علی قال قال رسول الله ان الله جعل لكل نبي وصيًا جعل شيث وصي آدم ويوشع وصي موسى وشمعون وصي عيسى وعليًا وصي وصي خير الا وصياء في البداء وانا الداعي وهو المضي

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لئے وصی بنایا حضرت شیث کو حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت یوشع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شمعون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو میرا وصی بنایا وہ ابتداء سے سب افضل وصی ہیں میں لوگوں کو دعوت دینے والا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روشنی دینے والا ہے

مسند الفردوس ۳/۳۳۶ حدیث ۵۰۰۹

یہی حدیث یوں بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی کون ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ من وصیک یا رسول اللہ آپ کا وصی کون ہے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ یا سلمان من کان وصی موسیٰ اے سلمان بتا کہ موسیٰ کا وصی کون تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یوشع بن نون موسیٰ کے وصی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

فان وصی و وارث یقضى دینی وینجز موعدی
علی بن ابی طالب۔

بے شک میرا وصی و وارث میرے قرض کو ادا اور میرے وعدے کو پورا کرنے والا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے
(الریاض النضرہ ۲/۱۳۸ محب طبری)

۱۰۔ وعنہ علیہ السلام قال قال لی رسول اللہ
یا علی انت تبرئ ذمتی وانت خلیفتی
علی امتی

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اے علی
کرم اللہ وجہہ الکریم تم مجھ کو بری الذمہ کرو گے اور تم میری
امت پر میرے خلیفہ ہو۔

۱۱۔ وعن انس قال قال رسول اللہ یا انس
انطلق فادع لی سید العرب یعنی علیاً
فقلت عایشہ الست سید العرب
فقال اناسیّد وُلد آدم ولا فخر
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے
انس جاؤ سردار عرب یعنی حضرت علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا لاؤ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ سردار عرب
نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کا اور علی عرب
کا سردار ہیں۔ لیکن ناز نہیں کرتے۔

وَعَلَى سَيِّدِ الْعَرَبِ فَلَمَّا جَاءَهُ أَرْسَلَنِي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَنْصَارِ فَاتَوَهُ فَقَالَ لَهُمْ يَا مَعْشَرَ
الْأَنْصَارِ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا أَنْ تُمْسِكْتُمْ بِهِ
لَنْ تَصْلُوا بَعْدِي قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ هَذَا عَلَى فَاحِبُوهُ لِحُبِّي وَكَرَمُوهُ
لِكِرَامَتِي فَاَنْ جِبْرِئِيلُ أَمَرَنِي بِالذِّكْرِ
قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ -

جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حاضر خدمت ہوتے تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو انصار کے بلانے
کو بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے مخاطب ہو کر
فرمایا۔ اے گروہ انصار کیا میں تم کو اس چیز کی طرف
ہدایت نہ کروں کہ اگر تم اس سے تمسک کرو گے۔

تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ انصار نے عرض کی
یا رسول اللہ ہاں فرمائیے۔ فرمایا یہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے
پس تم میری محبت کے لئے اس کو دوست
رکھو اور میری تعظیم و تکریم کے لئے اس کی تعظیم و تکریم کرو۔
پس جبرئیل میرے پاس آئے اور جو کچھ میں نے
تم سے کہا خدا کی طرف سے مجھ کو اس پر مامور کیا گیا ہے

حسب كافي مولا اسكافي مولا

موت خبم

حديث ١

عن ابي الحمراء خادم رسول الله قال بعد كبر
سنة لواحد من رفقاءه لاحد ثلث ما
سمعت اذ ناي ورأت عيناى اقبل رسول الله
حتى دخل على عائشة فقال لها ادعى لى
سيد العرب فبعثت الى ابي بكر فدعته
فجاء حتى كان كراى العين علم ان غيره
دعى فخرج من عندها حتى دخل على حفصة
فقال لها ادعى لى سيد العرب فبعثت الى
عمر فدعته حتى اذا صار كراى العين علم
ان غيره دعى فخرج من عندها حتى اذا دخل
على ام سلمة وكانت من خيرهن وقال
لها ادعى لى سيد العرب فبعثت الى علي فدعته
ثم قال لى يا ابا الحمراء رح استنى بمائه من
قريش وثمانين من العرب وستين من الموالي
واربعين من اولاد الحبشه فلما اجتمع الناس

قال لي اثنتي بصحيفة من ادم فائتته بها
 ثم اقامهم مثل صف الصلوة فقال
 معاشر الناس اليس الله اولي بي من نفسي يا مرنى
 وينهاى مالى على الله امر ولا نهى قالوا بلى
 يا رسول الله فقال الست اولي بكم من انفسكم
 امركم وانهاكم مالكم على امر ولا نهى قالوا
 بلى يا رسول الله فقال من كان الله مولاه وانا
 مولاه فهذا على مولاه يا مركم وينهاكم مالكم
 عليه امر ولا نهى اللهم وال من والاه وعاد
 من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
 اللهم انت شهيدى عليهم انى قد بلغت
 ونصحت ثم امرت الصحيفة علينا
 ثلاثا ثم قال من شاء ان يقيه ثلثا قلنا
 نعوذ بالله وبرسوله ان نستقيه ثلثا ثم
 ادرج الصحيفة وختمها بخواتيمهم
 ثم قال يا على خذ الصحيفة اليك فمن
 نكث لك قاتله بالصحيفة فاكون انا خصمه
 ثم تلا هذه الآية ولا تنكثوا ايمانكم بعد
 توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
 فتكونوا كبنى اسرائيل اذا شدد واعلى انفسهم
 فشدد الله عليهم ثم تلى فمن نكث فانما
 ينكث على نفسه

خادم نبی حضرت ابو حمراء رضی اللہ عنہ نے بوڑھے ہو جانے کے بعد اپنے ایک رفیق سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا جسے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا کہ سردار عرب کو یہاں بلائیں انہوں حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلوایا جب وہ آئے تو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی اور کو بلانا مقصود ہے پھر حضرت وہاں سے نکلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے انہیں حکم دیا کہ سردار عرب کو بلائیں انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا جب وہ آئے تو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کسی اور کو بلانا مقصود ہے پھر وہاں سے نکلے اور حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تشریف لائے یہ تمام بیبیوں میں خیر والی تھی انہیں فرمایا کہ سردار عرب کو بلائیں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلوایا جب وہ آئے تو مجھ سے فرمایا کہ ابو حمراء جاؤ ۱۰۰ اہل قریش کو ۸۰ اہل عرب ۶۰ غلام ۴۰ اہل حبش کو بلا لائیں جب یہ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا کہ چمڑے کا صحیفہ لے آئیں میں نے یہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پس آپ نے ان سب کو نماز کی طرح صفوں میں کھڑا کیا پس فرمایا کہ اے لوگو کیا اللہ تعالیٰ میری جان پر مجھ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا وہ مجھے امر و نہی فرماتا ہے مگر مجھے اس پر امر و نہی کا کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو کیا مجھ کو تمہارے

نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں چاہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔
 فرمایا کہ جس کا اللہ اور میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ وہ
 تم کو امر و نہی کرتا ہے مگر تم ان کو امر و نہی نہیں کر سکتے اے اللہ
 جو ان کو دوست رکھے تو بھی اے دوست رکھ اور جو دشمن رکھے تو بھی
 اے دشمن رکھ جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما اور جو ان کو
 رسوا کرے تو بھی اے رسوا کر یا اللہ تو گواہ ہے میں نے پہنچایا
 اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ وہ صحیفہ تین بار پڑھ کر سنائے
 چنانچہ ایسا کیا گیا پھر فرمایا کہ اس عہد کو کون توڑنا چاہتا ہے۔
 ہم نے عرض کیا اس کے توڑنے سے ہم اللہ و رسول کی
 پناہ مانگتے ہیں ہم نے اسے تین بار دہرایا پھر آپ نے اس
 صحیفہ کو لپیٹا ان سب لوگوں کی اس پر مہریں لگوائیں پھر آپ نے
 فرمایا اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس صحیفے کو اپنے پاس رکھ لو
 جو کوئی اس عہد کو توڑ ڈالے اس کے مطابق اس سے
 جنگ کرنا میں اس کا دشمن ہوں گا۔ اور اس سے جنگ
 کروں گا پھر آپ نے آیت **وَلَا تَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ**
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيْلًا (النحل ۹۱)

اپنے قسموں کو مستحکم کرنے کے بعد مت توڑا کرو کیونکہ اب
 تم اللہ کو اپنا کفیل بنا چکے ہو۔ پڑھی اور فرمایا اگر تم ایسا
 کرو گے تو تم بنی اسرائیل کی مانند بن جاؤ گے۔ جنہوں نے اپنے
 نفوس پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی پھر آپ نے
 یہ آیت تلاوت فرمائی۔

فمن نكث فانما ينكث على نفسه (الفتح ۱۰)
جو قسم توڑتا ہے وہ بال اسی کے نفس پر ہے۔

۲۔

وعن ابی عبد اللہ الشیبانی قال بینما انا جالس عند
زید ابن ارقم فی مسجد ارقم اذ جاء رجل فقال ایکم
زید بن ارقم فقال القوم هذا زید فقال انشدک بالذی
لا الہ الا هو اسمعت رسول اللہ یقول من کنت مولاه
فعلیّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
قال نعم۔

حضرت ابو عبد اللہ شیبانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک
دن مسجد ارقم میں حضرت زید بن ارقم کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہاں
ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ آپ میں سے زید بن ارقم کون ہیں؟ لوگوں نے
کہا یہ ہیں۔ اُس نے کہا کہ اے زید میں اُس خدا کی قسم دیتا ہوں
جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔
یا اللہ ان کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ حضرت زید
رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ ہاں

اس حدیث کے آخری الفاظ من کنت مولاه فعلیّ مولا

(سنن الترمذی ۵/۳۲۸ حدیث ۳۸۷۶) میں موجود ہیں۔

۳۔ وعن ابی ہریرۃ قال من صام لیوم الثامن عشر من ذی الحجۃ کان لہ کصیام ستین شہراً وهو الیوم الذی اخذ فیہ رسول اللہ بید علی فی غدیر خم فقال من کنت مولاه فعلیؑ مولاه اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو کوئی ۱۸ ذوالحجہ کو روزہ رکھے گویا اس نے ۶۰ مہینے روزہ رکھا یہ وہ دن ہے جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ دو گار کی مدد فرما دو رسوا کرنے والے کو رسوا کر

(مودۃ فی القرابی لا یوجد فی المصدر حدیث ۸۱۰)

۴۔ وعن الباقی عن ابائہ علیہم السلام مثل ذالک بل روی کثیر من الصحابة فی اماکن مختلفۃ ہذا الخبر۔

حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد سے اسی طرح روایت کرتے ہیں بلکہ مختلف موقعوں پر بکثرت صحابہ کرام سے اسی طرح روایت ہے۔

۵۔ وعن عمر ابن الخطاب قال نصب رسول الله عليًا
 علما فقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال
 من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره
 اللهم انت شهيدى عليهم - ثم قال يعنى عمر
 وكان فى جنبى شاب حسن الوجه طيب الريح
 فقال لى يا عمر لقد عقد رسول الله لابن عمه
 عقداً لا يَحِلُّهُ الا منافق فاحذر ان تحله قال عمر
 ققلت يا رسول الله انا حيث قلت فى علي
 كان فى جنبى شاب حسن الوجه طيب الريح وقال
 كذا وكذا قال النبى نعم يا عمر انه ليس من
 ولد ادم لكنه جبرئيل اراد ان يؤكد عليكم
 ما قلته فى على

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم،
 کو بطور نشان نصب کیا پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا
 یہ علی مولا ہے یا اللہ ان کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن
 رکھ ان کے مددگار کی مدد فرما اور رسوا کرنے والے کو رسوا کر یا اللہ
 تو میرا گواہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پہلو
 میں ایک خوبصورت اور خوشبو والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا
 اس نے مجھ سے کہا کہ اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اپنے پیچھے بھائی کے لیے سخت عہد لیا ہے جسے منافق
 کے سوا کوئی نہیں توڑتا پس اے توڑنے سے بچنا چاہیے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق یوں فرمایا ہے تھے۔ اس وقت میرے پہلو میں ایک غصبت اور خوشبو والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے یوں کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ حضرت جبریل امین تھا تم لوگوں کو جو کچھ میں کہتا اس کی تاکید کرنے آیا تھا۔

دُخَارُ الْعُقْبَىٰ فِي مَنَاقِبِ ذُوِي الْقُرْبَىٰ صَفْحَةُ ۸۳

التفسير الكبير في تفسير الدين رازی ذیل

الایة شریفہ فی المصدر۔ انا لا یوجد فی المصدر۔
ثم قال المائدة

۶ = وعن البراء ابن عازب قال اقبلت مع رسول الله في حجة الوداع فلما كان بغدير خم نودي الصلوة جامعة فجلس رسول الله تحت شجرة واخذ بيد علي وقال الست اولي بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى يا رسول الله فقال الا من انا مولاه فعلى مولاه۔ اللهم ال من والاه وعاد من عاداه فلقبه عمر فقال هنيئاً لك يا علي ابن طالب اصبحت مولائى ومولى كل مؤمن ومومنة وفيه نزلت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حجة الوداع

کے موقع پر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم غدیر خم پہنچے تو منادی نے صلوٰۃ جامع کی صدادی پس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں مومنین کی جانوں سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں پس فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا اللہ ان کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ اس کے بعد حضرت علی کی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت علی کو مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا یا علی آپ کو مبارک کہ آپ میرے اور تمام مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے اسی دن یہ آیت یا ایہا الرسول بلغ نازل ہوئی تھی۔

(مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۱ التفسیر البکیر فی تفسیر الدین رازی)

وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله
 لعلي لو كان البحر مداداً والرياح قلاماً
 والانس كتاباً والجن حساباً ما احصوا فضلك يا ابا الحسن
 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
 سے فرمایا کہ اگر سمندر سیاہی اور باغ قلم بن جائیں تمام انسان
 کاتب اور جن حسابدار بن جائیں تو بھی یا علی تیرے فضائل شمار نہ کر
 سکیں گے۔

(المناقب خوارزمی ۳۲۸ حدیث ۳۴۱)

۸ = وعن سلمان الفارسی قال قال رسول الله
اعلم أمتی من بعدی علی ابن ابی طالب
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں سب
زیادہ علم جانتے والا علم علی بن ابی طالب ہے۔
(کنز العمال " حدیث ۳۲۹۷۷)
(فراند السمطین ۱/ ۹۷ شیخ محمد ابوالاسیم محدث الشافعی)

۹ = وعن جابر قال سمعت رسول الله يقول يوم
الحديبية وهو اخذ بيد علي هذا امام البررة وقاتل
الكفرة منصور من نصره فخذول من خذله
يعدّها بصوته

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جب کہ آپ نے حضرت
علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے۔ یہ
نیچو کاروں کا امام اور کفار کا قاتل ہے اس کے مددگار کو اللہ کی
مدد ملے گی۔ جو کوئی اس کی مدد ترک کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی
مدد ترک کر دے گا۔

فراند السمطین ۱/ ۱۵۷ حدیث ۱۱۹ شیخ محمد ابوالاسیم محدث الشافعی،

۱۰ = وعن ابن عباس قال قال رسول الله لن تضلوا
ولن تهلكوا وانتم تحتكف علي واذا خالفتموه

فقد صلت بكم الطرق والاهواء في الغي
 فاتقوا الله في ذمة الله فان ذمة الله على ابن ابی طالب
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تک تم علی کے
 فرمانبردار رہو گے ہرگز گمراہ و ہلاک نہ ہو گے جب اس کی مخالفت کرو
 تو گمراہ ہو جاؤ گے اور نفسانی خواہش تم کو سرکشی میں ڈال دے گی۔
 پس تم ذمۃ اللہ یعنی عہد باری تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ
 سے ڈرو اور ذمۃ اللہ علی ابن ابی طالب ہے۔
 (مودۃ القرابی فی المصدر (و انتم تحت کف علی) واذا (۱۸)

== وعن ابی امامۃ الباہلی قال قال رسول اللہ
 یاتی الناس یوم القیامۃ بالاعمال ولا ینفعہم الا من
 قبلت انا وعلی ابن ابی طالب عملہ بعد قبول الامامۃ
 حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یوم قیامت اعمال لے کر آئیں
 گے مگر جب تک میں اور علی قبول نہیں کریں گے وہ اعمال ان کو کچھ
 فائدہ نہیں گے۔

فائدہ

چنانچہ ارشاد نبوی ہے استم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من
 انفسہم قالوا بلی فقال اللہ من کنت مولاه فعلیؑ مولاه
 کیا تم کو معلوم نہیں کہ مؤمنین کے لیے میں ان کی جانوں سے بہتر
 ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی ہاں پھر فرمایا اے اللہ

میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے ۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَا سِرَّهُمْ وَقِفُوهُمْ
اِنَّهُمْ مُسْتَوْثَوْنَ (الصفۃ)

جس دن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے مع ان کے اماموں کے اور انہیں ساتھ کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جائے گا ۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اِنَّهُمْ مُسْتَوْثَوْنَ عَنْ وِلَايَتِهِ عَلِيٌّ

ان سے حضرت علی کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا ۔

(منصب امامت شاہ اسماعیل دہلوی ۱۱۰)

جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَقْرَبُهُمْ مَجْلَسًا
اِمَامٌ عَادِلٌ ۔

لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کا مقرب قیامت کے دن امام عادل ہوگا ۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ۔

اِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ قُطْبَ كَمَالَاتِ الْوِلَايَةِ وَ
سَائِرِ الْاَوْلِيَاءِ حَتَّى الصَّحَابَةِ رَضَوْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِتِّبَاعُ لُءٍ
فِي مَقَامِ الْوِلَايَةِ

بلاشبہ علی رضی اللہ عنہ تمام کمالات ولایت کے مرکزی نکتہ اور قطب ولایت تھے ۔ تمام اولیائے کرام بلکہ تمام صحابہ کرام بھی مقام ولایت میں آپ کے تابع ہیں ۔

(التفسیر مظہری ۵/۶۶)

قَالَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
(پارہ ۱۱ سورۃ یونس آیت ۵۸)

۱۲۔ وعن فاطمة قالت رسول الله من كنت وليه
فعلي وليه من كنت امامه فعلي امامه
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں ولی ہوں
علی اس کا ولی ہے اور جس کا میں امام ہوں علی اس کا امام ہے
(الریاض النضرہ ۲۰/۱۳۰)

۱۳۔ وعن أم سلمة قالت قال رسول الله لولم يخلق
علي ما كان لفاطمة كفو
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی پیدا
نہ ہوتا تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو ہمسر نہ ہوتا
الفردوس الدینی ۳/۳۷۳ حدیث ۵۱۳
(کنوز الحقائق ۱/۲۷۱)

۱۴۔ وعن علقمه بن قيس والاسود بن بريد
قال اتينا ابا ايوب الانصاري فقلنا يا ابا ايوب
ان الله اكرمك نبيك اذا اوحى الي راحلته
فبركت الي بابك فكان رسول الله صنع لائ

فضيلة فضلك بها اخبرنا به مخرجك مع علي تقاتل
 اهل لا اله الا الله فقال ابو ايوب فاني اقسم بكم بالله
 لقد كان ورسول الله معي في هذا البيت الذي انما
 فيه معي وما في البيت غير رسول الله وعلي جالس
 عن يمينه وانا جالس عن يساره والنس قائم بين
 يديه اذا حرك الباب فقال رسول الله انظر الى
 الباب من الباب فخرج انس فقال يا رسول الله
 هذا عمار فقال رسول الله افتح لعمار الطيب
 المطيب ففتح انس الباب فدخل عمار على
 رسول الله قال يا عمار ستكون في امتي من
 هنأت حتى يختلف السيف فيما بينهم حتى
 يقتل بعضهم بعضا فاذا رايت ذلك فعليك
 بهذا الاصلع عن يميني يعني عليا ابن ابي طالب
 ان سلك الناس كلهم واديا وملك علي
 واديا فاسلك وادي علي واخل عن الناس
 يا عمار علي لا يردك عن هدي ولا يدلك
 علي ردي يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي
 طاعة الله

حضرت علقمہ بن قیس اور اسود بن برید روایت کرتے ہیں کہ ہم
 ابو ایوبؓ انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ
 اے ابو ایوبؓ! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے
 آپ پر احسان کیا جب آپ کے تاقہ کو آپ کے دروازے

پر ٹھہرنے کا حکم دیا اور وہ وہاں ٹھہر گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں فضیلت بخشی اب آپ ہمیں علی کے ساتھ مل کر کلمہ گوئیوں کے خلاف جنگ کے لئے نکلنے کا حال سنائیں انہوں نے کہا کہ تم دونوں کو قسم دیتا ہوں کہ ایک دن رسول اللہ اس گھر میں جس میں اس وقت تم بیٹھے ہو سے ہو تشریف لائے اس وقت علی دائیں طرف ہیں، بائیں طرف اور اور اس سامنے کھڑا تھا یکا یک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا رسول اللہ نے اس سے فرمایا دیکھو کہ کون ہے؟ اس نے آکر عرض کیا کہ یہ تو عمار ہیں رسول اللہ نے فرمایا عمار پاک و پاکیزہ کے لئے دروازہ کھول دو چنانچہ اس نے دروازہ کھولا پس عمار اندر داخل ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمار! عنقریب میری امت میں اختیافی بری باتیں ظاہر ہوں گی اور تلوار چلے گی حتیٰ کہ بعض بعض کو قتل کریں گے جب ایسا دیکھو تو میرے دائیں والے اصلح (یعنی علی) کا ساتھ دو اگر تمام لوگ ایک وادی میں اور علی اکیلا دوسری وادی میں جائیں تو لوگوں کو چھوڑ کر علی کے ساتھ چلو کیونکہ علی تجھے راہ ہدایت سے پھیرے گا نہیں اور ہلاکت کی طرف لے جائے گا نہیں اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔

فرائد السمیعین ۱/ ۱۷۸ حدیث ۱۴۱

۱۵۔ وعن ابی جعفر الباقر علیہ السلام فی قوله
 یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافة
 الایة یعنی ولایة علی والاوصیاء من بعده
 اور امام ابو جعفر محمد باقر نے فرمایا ہے کہ آیہ

یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافة
 (اے ایمان والو سب کے سب سلم میں داخل ہو) سلم سے مراد
 علی اور ان کے اوصیاء علیہم السلام کی ولایت ہے۔ جو
 علی کے بعد ہوئے۔

۱۱۱
حضرت علیؓ مکرم و جبریلؓ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و احی

مودیشتم

۱۔ وعن جابر قال قال رسول الله رأيت على باب الجنة مكتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى ولي الله اخو رسول الله

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر یوں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علی اللہ کا ولی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے۔

(کنز العمال ۱۳/ ۱۳۸ حدیث ۳۶۴۳۵ ذخائر العقبی ۸۲)

۲۔ وعن انس قال قال رسول الله ان الله اصطفى على الانبياء فاختارني واختار لي وصياً واختار ابن عمي وصي وشد به عضدي كما شد عضد موسى باخيه هارون وهو خليفتي ووزيري ولو كان بعدني نبياً لكان علي نبياً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے مجھے منتخب کیا اور اوصیا سے میرے

وصی چمپرے بھائی اور داماد کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے میرا بازو مضبوط کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کے بھائی ہارون کے ذریعے کیا پس وہی میرا خلیفہ اور وزیر ہے اگر میرے بعد ہی ہوتا تو وہی ہوتا۔

قارئین کرام حدیث کو سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوکب دُری فی فضائل علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں حضرت الفضل سید محمد صالح کشفی نے صفحہ ۲۱۰ پر لکھی ہے۔

۳۔ عن ابی موسیٰ الحمیدی قال کنت مع رسول اللہ فی نصف عرفة ومعه ابوبکر وعمر وعثمان ونفر من اصحابہ وعلی قالت علی ابوبکر فقال یا ابا بکر هذا الذی تراہ وزیری فی السماء وزیری فی الارض یعنی علی ابن ابی طالب فان احببت ان تلقی اللہ تعالیٰ وهو عنک راض فارض علیاً فان رضائه رضاہ اللہ وغضبه غضب اللہ

حضرت ابو موسیٰ حمیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نصف عرفہ میں۔ میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور چند صحابہ کرام بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) یہ علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) جسے تم

دیکھ رہے ہو آسمان اور زمین میں میرا وزیر ہے اگر تم بائیں حال اللہ سے ملنا چاہتے ہو کہ وہ تم سے راضی ہو تو علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کو خوشنود رکھو کیونکہ اس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی اور ان کا غضب اللہ کا غضب ہے۔

۴ = وعن عمر بن الخطاب قال ان رسول الله لما عقد المواخاة بين اصحابه قال هذا عليّ اخي في الدنيا والاخرة وخليفتي في اهلي ووصيّي في امتي ووارث علمي وقاضي ديني ماله مني مالي منه نفعة وضرة ضري من احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخات کے موقع پر فرمایا کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی - اہل بیت میں میرا جانشین اور میری امت میں وصی ہے وہ میرے علم کا وارث اور میرا قرض اتارنے والا ہے اس کا مال میرا مال اور میرا مال اس کا مال ہے اس کا نفع میرا نفع اس کا نقصان میرا نقصان ہے ان کی دوستی میری دوستی ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔

قارئین کرام حدیث نمبر ۴ میں قال هذا عليّ اخي في الدنيا والي میں لفظ وصي في امتي ووارث استعمال ہوا۔

اس حدیث سے ایک ملتی جلتی حدیث یوں بیان کی گئی ہے۔
حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا **مَحَلُّ نَبِیِّ وَصِیِّ وَوَارِثٍ وَابْنِ عَلِیٍّ وَصِیِّ وَوَارِثِی**

ہر نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے میرا وصی و وارث علی ہے (مسند الفردوس ۳/۳۳۶ حدیث ۱۵۰۰۹ الریاض النضرہ ۲/۳۸۱ مح طبری) حضرت النیس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ آپ کا وصی کون ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا **یَا رَسُولَ اللہ مَنْ وَصَّیْتَ حَضْرَہِ عَلِیٍّ صَ لَوَۃُ وَا لَسَ لَام** فرمایا **یَا سَلْمَانَ مَنْ كَانَ وَصِیُّ مُوسٰی** اے سلمان بتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کون وصی تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یوشع بن نون موسیٰ کے وصی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

فَاَنْ وَصِیِّ وَوَارِثِی یَقْضٰی دِیْنِی وَیَنْجِزُ مَوْعِدِی عَلٰی بَنِی اَبِی طَالِب۔

بے شک میرا وصی و وارث میرے قرض کو ادا اور میرے وعدے کو پورا کرنے والا علی بن ابی طالب ہے۔

(الریاض النضرہ ۲/۱۳۸) آل رسول سید خضر حسین چشتی جلد ۱/۶۵۹

علامہ محب الدین احمد طبری رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں پر کلام کرتے ہوئے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ وراثت سے مراد وہی وراثت ہے جس کا ذکر حدیث موافات میں آیا ہے۔ یعنی کتاب و سنت ہی بحث کے ضمن میں حدیث نقل فرمائی ہے۔

آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا۔

اَنْتَ اَخِیْ وَوَارِثِی

اے علی تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے ۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
میں عرض کیا ۔

وَمَا أَرِثُ نِسْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
اے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے متعلق کس
چیز کا وارث ہوں ۔

آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

مَا وَرِثَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبَائِلِي

جس چیز کے مجھ سے پہلے انبیاء کے وارث بنائے گئے ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا ۔

وَمَا وَرِثَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِكَ

کس چیز کے وارث بنائے گئے ہیں ۔ انبیاء کے آپ سے پہلے

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

كِتَابُ رَبِّهِمْ وَسُنَّتِي نَبِيِّهِمْ

اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ۔

(الریاض النضرة ۲ / ۱۳۸)

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ

ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ

کرام رضی اللہ عنہ کے مابین اخوت قائم فرمائی تو حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم رہ گئے

پھر آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھائی بھائی بنا

دیا اور سیدنا مولیٰ کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا
 اَنْتَ اَخِي وَاَنَا اُخْوَتُكَ

آپ میرے بھائی اور میں آپ کا بھائی
 (فضائل الصحابہ ۲/۴۰)

اخوت نبوی - خلاصہ یہ ہے کہ مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اخوت نبوی کا عطا ہونا ایسی مخصوص عظمت ہے جو کسی بھی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہوئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور اُن صفات مرتضوی کرم اللہ وجہہ الکریم میں سے ہے اپنی قوم کی حمیت اور اپنے چچا کے فرزند سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت مثلاً اس کے کار منصبی کو پورا کرنے میں اہتمام کرنا اور اس کی اعانت میں قوی ہمت کو کام میں لانا اور یہ خصلت زیادہ تر شرفاء میں پیدا کی جاتی ہے۔ جب فیض الہی نے اللہ کا حکم بلند کرنے کا داعیہ اُن کے نفس میں ڈالا تو اخلاق جبلیہ میں سے اس خلق نے اس داعیہ کی خدمت کی اور اس عقلی حکمت کو خوب واضح کر دیا جس کی بدولت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک نادر مقام حاصل ہو گیا جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخوت سے آپ کی موالات سے لفظ وصی وارث اور ان کی مانند الفاظ سے کی جاتی ہے۔

(ازالۃ الغفاء ۴/۴۶۴) (خصائص علی امام نسیائی ترجمہ قاری ظہور احمد فیضی حفظہ اللہ ص ۳۶۷)

امام ابو الفتوح مجدد الدین محمد بن محمد بن علی الطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی کے مرتبہ کو جاننا چاہو تو مواخات صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی میں غور کرو کہ آپ نے ایک کی دوسرے کے ساتھ اخوت میں مماثلت کو ملحوظ رکھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مواخات فرمائی اور حضرت علی کو اپنے لئے بچائے رکھا۔ اور اپنی اخوت سے مختص فرمایا۔ لہذا تمہارے سمجھانے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اور مرتبہ کافی ہے۔

کتاب الاربعین لابی الفتوح الطاہری ۵۵

۵۔ وعن ابی لیلی الغفاری قال قال رسول اللہ
ستكون من بعدی فتنة فاذا كان ذاك فالزموا
علیاً فإنه الفاروق بین الحق والباطل
حضرت ابو لیلی غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عنقریب
فتنہ برپا ہوگا اس وقت تم علی کا ساتھ دینا کیونکہ وہ حق و باطل
کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

(کنز العمال ۱۱/۶۱۲ حدیث ۳۲۹۶۴)

(اسد الغابۃ فی معرفت الصحابہ ۵/۲۸۷)

۶۔ و عن ابن عباس قال قال رسول الله ان الله افترض طاعتي وطاعة اهليتي على الناس خاصة وعلى الخلق كافة قيل يا رسول الله فما الناس وما الخلق قال الناس اهل مكة والخلق خلق الله من ذی روح -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور اہل بیت کی اطاعت لوگوں پر بالخصوص اور مخلوقات پر بالعموم فرض کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں لوگوں اور مخلوق سے کیا مراد ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں سے اہل مکہ اور خلق اللہ سے ہر ذی روح مراد ہے۔

۷۔ و عن علی المرتضیٰ قال قال لی رسول الله يا على اني احب لك ما احب لنفسی واكره لك ما اكره لنفسی -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تمہارے لئے اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور تمہارے لئے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو اپنے نفس کے لئے ناپسند کرتا ہوں

(کنز العمال ۴/ ۴۶۱ حدیث ۱۹۷۸۵)

۸۔ وعنه عليه السلام قال قال رسول الله لما اسرى بي
الى السموات لقيتني الملكة بالبشارة في كل سماء
حتى لقيتني جبرئيل في محفلة من الملكة
فقال يا محمد لو اجتمع امتك على حب
علي ابن ابي طالب ما خلق الله النار

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی روایت کرتے ہیں کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے آسمان
پر سیر حاصل ہوئی مجھے ہر آسمان پر فرشتے بشارت دیتے تھے
یہاں تک کہ جبرئیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مجھ سے
ملے اور کہا کہ یا محمد اگر آپ کی امت حب علی پر متفق ہوتی تو اللہ
دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔

اس طرح کی یہ حدیث بھی ہے۔

۹۔ وعن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله
لو اجتمع الناس على حب علي ابن ابي طالب
لما خلق الله النار

(المناقب للخوارزمی ۲۷ حدیث ۳۹)

حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ حضرت
علی کرم اللہ وجہہ الکریم ابی طالب کی محبت پر جمع ہوتے تو اللہ تعالیٰ
دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔

یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح

ہے

قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب ما فاح الله النار
(الفردوس ۳/۴۱۹ حدیث ۵۱۷۵)

۱۰۔ وعن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول عنوان صحيفة المومن حب علي ابن ابي طالب عليه السلام

حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ خدا کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان علی بن ابی طالب کی محبت ہے۔

(مسند الفردوس المناقب خوارزمی ۲۴۳ حدیث ۲۹۰ المناقب لابن المغازلی ۲۴۳ / حدیث ۲۹۰)

۱۱۔ وعن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله ان الله امرني بحب اربعة واخبرني انه يحبهم قيل سمهم لنا قال علي منهم ثلاثا وسلمان والبوذر والمقداد۔

حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چار شخصوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھ کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے وہ ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ
سنن ابن ماجہ ۱/ ۵۳ حدیث ۱۴۹ ، مسند احمد ۵/ ۳۵۱ ،
المناقب لابن المغازی ۲۹۰ حدیث ۳۳۱ -

۱۲۔ وعن جابر قال قال رسول الله مكتوبٌ على
باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله على
اخو رسول الله قبل ان يخلق السموات والارض
بألفي عام محمد رسول الله على اخو رسول الله
حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کی خلقت
سے دو ہزار سال پہلے سے جنت کے دروازے پر لکھا ہے
محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے بھائی ہیں۔

(حلیۃ الاولیاء ۴/ ۲۵۶ المناقب للبخاری ۹۱ حدیث ۱۳۴)

حدیث ۱۶۸

اس حدیث کی تائید میں یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالیٰ ہوالذی ایدک نبصرہ
بالمؤمنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مكتوب على العرش
لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد عبدي ورسوله واهل بيته

بعلی بن ابی طالب =

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر میں ہے کہ اس نے تیری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے نہیں سوائے خدا کے کوئی معبود درخالیکہ وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے میں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ اس کی تائید کی ہے۔

(حلیۃ الاولیاء ۳/۲۷ ابو نعیم)

بعض خارجی لوگ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور حدیث کو کی من گھڑت حدیث قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کی تائید میں یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

البراء بن عازب مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

ابوبکر الصدیق عمر الفاروق عثمان الشہید علی الرضا

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ العرش الہی پر لکھا ہوا ہے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر الفاروق

رضی اللہ عنہ حضرت عثمان شہید رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم

الرضا ہیں۔

(مسند الفردوس ۴/۱۲۳ حدیث ۶۳۸۲)

۱۲۔ وعن ابی رافع عن ابيه لما كان يوم احد نادى مناد لاسيف الاذوالفقار ولافتى الا على حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن کسی منادی کی یہ ندا سنائی دی کہ علی جیسا بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔

(فرائد السمطين ۱/ ۲۵۱ حدیث ۱۹۴)

(المناقب لابن المغازلی ۱۱۷ حدیث ۲۳۴)

اس حدیث کی تائید میں حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا علي ابن ابي طالب هذا سيف الله المسلول على أعدائه

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ علی ابن ابی طالب اللہ کی برہنہ شمشیر یعنی تلوار ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لئے (اخرجه البوسعدي في شرف النبوت ارجع المطالب)

۱۳۔ وعن ابن عباس قال قال رسول الله حب علي يا كل الذنوب كما تا كل النار حطب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت گناہ کو اس طرح جلا کر بھسم کرتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو

(کنز العمال ۱۱/ ۶۲۱ حدیث ۳۳۰۲۱، الریاض النضر ۲/ ۲۱۵)

۱۵۔ وعن عمر قال قال رسول الله حب علي برأية من النار

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کی محبت دوزخ سے بری کا ذریعہ ہے۔

(مسند الفردوس ۲/ ۱۴۲ حدیث ۲۶۲۳)

۱۶۔ وعن علي قال قال رسول الله من احبك يا علي كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة ومن مات ويغضك فلا يبالي مات يهوديًا او نصرانيًا حضرت علی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (یا علی جو تم سے محبت کرے وہ بروز محشر نبیوں کے ساتھ ان کی منزل میں ہوگا اور جو تم سے بحالت بغض مرے کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی

۱۷۔ وعن جابر قال قال رسول الله ان الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي ابن ابي طالب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی

اولاد اس صلب (یعنی پشت) میں رکھی مگر میری اولاد علی کی صلب
یعنی پشت میں رکھی

(علامہ ابن حجر نے طبرانی کے حوالے سے حدیث نقل فرمائی ہے
الصواعق المحرقة ص ۱۵۶)

(مجمع الزوائد ۹/۱۷۲ المناقب للنواری ۲۲۷/حدیث ۳۳۹)

۱۸۔ وعن علی المرتضیٰ علیہ السلام قال قال رسول اللہ
کف علی کفی

حضرت علی سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔

۱۹۔ وعن ابی بکر قال قال رسول اللہ یا ابابکر کفی و
کف علی فی العدل سواء

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر میرا اور علی کا
ہاتھ عدل میں برابر ہے۔

(جامع الصغير ۲/۱۷۷)

۲۰۔ وعن معاذ قال قال رسول اللہ حب علی حسنة
لا یضر معها سيئة وبغضه سيئة لا یمنع معها
حسنة۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت نیکی ہے جسکی موجودگی میں گناہ ضرر نہیں پہنچاتے اور ان سے بغض گناہ ہے جس کی موجودگی میں نیکی نفع نہیں دیتی

الفردوس ۲/ ۱۴۲ حدیث ۲۷۳
منصب امامت شاہ اسماعیل دہلوی

۲۱۔ وعن محمد بن الجنفیہ قال قال رسول اللہ ان اللہ جعل علیاً قائد المسلمین الى الجنة به یدخلون الجنة وبہ یدخلون النار وبہ یعذبون یوم القیامۃ قلنا کیف ذلک قال علیہ السلام بمحبتہ یدخلون الجنة و ببغضہ یدخلون النار و یعذبون یوم القیامۃ

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو جنت کی طرف مسلمانوں کا قائد بنایا پس وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے آپ سے دشمنی کرنے والے دوزخ میں جا کر عذاب سہیں گے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا۔ فرمایا آپ کی محبت سے بروز قیامت جنت میں جائیں گے اور آپ سے دشمنی کے سبب دوزخ میں جائیں گے۔ اور عذاب سہیں گے

۲۲۔ وعن علی المرتضیٰ قال قال رسول اللہ لو ان عبدًا عبد اللہ تعالیٰ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذہبا فانفق فی سبیل اللہ ومد فی

عمره حتی یحج الف عام علی قدمیه ثم یبایع
الصفاء والمروة قتل مظلوماً ثم لم یوالک یا علی
لم یشم رائحة الجنة ولم یدخلها -

حضرت علی المرتضیٰؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی علیہ السلام
نے فرمایا کہ کوئی بندہ نوح کے اپنی قوم میں قیام کے برابر عبادت
کمرے کوہ احد کے برابر سونا راہ حق میں خرچ کرے اس کی عمر
اتنی لمبی ہو کہ وہ ہزار بار پیدل حج کرے پھر وہ صفاء و مروه
کے درمیان بحالت مظلومی قتل ہو جائے اگر وہ تم سے محبت
نہ رکھتا ہو تو وہ جنت کی بو پائے گا نہ اس میں داخل ہوگا -

۲۲۔ وعن عبد الله ابن سلام قال قلت يا رسول الله
اخبرني عن لواء الحمد ما صفة قال عليه السلام
طوله الف عام عموده يا قوته حمراء قبضته
من لؤلؤ ونشره زمرد خضراء له ثلث ذوائب ذائبه
بالمشرق وذائبه بالمغرب وثالثة في
وسط الدنيا مكتوب عليها ثلثة اسطر السطر
الاول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والسطر الثاني
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والسطر الثالث لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَلى اللَّهِ طول كل
سطر الف يوم قال صدقت يا رسول الله فمن
يحمل ذاك قال يحملها الذي يحمل لوائى
في الدنيا على ابن ابى طالب كتب الله

اسمہ قبل ان یخلق السموات والارض قال صدقت
یا رسول اللہ فمن لیستظل تحت لوائک قال المؤمنون
اولیاء اللہ وشیعته الحق وشیعتی ومحبی
وشیعة علی ومحبوه وانصاره فطوبی لہم وحسن
مآب والویل لمن کذبنی فی علی او کذب
علیاً فی اوزارعه فی مقامہ الذی

اقامہ اللہ فیہ - رضی اللہ عنہ
حضرت عمرؓ بن خطابؓ سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
مجھے لوائے حمد کے متعلق فرمائیے کہ اس کی صفت کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہزار برس کی مسافت
کے برابر لمبا ہے۔ اس کا ستون سُرخ یا قوت کا قبضہ سفید لولو
کا اور پھر ہر اسبز زمرہ کا ہے۔ اس کے تین گیسو ایک
مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا وسط دنیا میں اس پر تین
سطریں لکھی ہوتی ہیں۔ پہلی میں بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
دوسری میں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور تیسری میں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلٰی وَلی اللّٰہِ ہر سطر کی لمبائی ہزار دن کی مسافت
کے برابر لمبی ہے۔ یہ سن کر عمرؓ بن خطابؓ نے عرض
کیا یا رسول اللہ - آپ نے سچ فرمایا پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ
اسے کون اٹھاتے گا فرمایا کہ وہی اسے اٹھائے گا جو دنیا میں میرا جھنڈا
اٹھاتا ہے یعنی علی بن ابی طالب جس کا نام اللہ نے زمین و آسمان کی
تخلیق سے پہلے وہاں لکھ دیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا پھر پوچھا کہ آپ کے اس جھنڈے کے سائے میں کون ہوں گے فرمایا۔ کہ مومنین دوستانِ خدا حق کے پرستار میرے

دوستاند و محب اور علی کے دوستاند و انصار ان کا حال بہت اچھا اور ان کا ٹھکانا بھی اچھا ہے اور ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جنہوں نے علی کے باب میں مجھے جھٹلایا یا میرے باب میں علی کو جھٹلایا یا اللہ کے دیئے ہوئے مقام سے ہٹایا۔

قارئین کرام بعض لوگوں کو لفظ علی ولی پر بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ ذرا ان احادیث پر ضرور غور کریں۔

حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

اِنِّ عَلِيًّا مَعِيَ وَاَنَا مَعَهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي

بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔

(الریاض النظرہ ۲/۱۳۹) (الترغی ۵/۲۹۶ حدیث ۳۷۹۶)

(کنز العمال ۱۱/۶۰۸ حدیث ۳۲۹۴)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

مَنْ كُنْتُ وَلِيًّا فَعَلَيَّْ وَلِيًّا

جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔

(الریاض النظرہ ۲/۱۳۰)

حضرت ابو مقدم صالح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے
 کہا جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے
 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ میں عرض کیا۔

اللّٰهُمَّ اِنِّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ
 اے اللہ میں وسیلہ (یعنی ولایت علی بن ابی طالب کے ساتھ
 تیرے قریب ہو رہا ہوں

(الریاض النضرۃ ۲ / ۱۳۰)

حضرت علی رسول خدا کا قرض ادا کرنے والا ہے مودت ہفتم

۱۔ عن علی بن حسین علیہما السلام عن ابن عمر قال مر سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ وهو یرید ان یعود رجلاً ونحن جلوس فی حلقة وفینا رجل یقول لوشئت لابنائکم بافضل هذه الامة بعد نبینا وافضل من هذین الرجلین ابی بکر وعمر فقام سلمان رضی اللہ عنہ فقال اما واللہ لوشئت لابنائکم بافضل هذه الامة بعد نبینا وافضل من هذین الرجلین ابی بکر وعمر ثم مضی سلمان رضی اللہ عنہ فقیل له یا ابا عبد اللہ ما قلت له قال سلمان دخلت علی رسول اللہ وهو فی عمرات الموت فقلت یا رسول اللہ هل اوصیت قال یا سلمان رضی اللہ عنہ انذری من الاوصیاء قلت اللہ ورسوله اعلم قال ادم وكان وصیه شئت وكان افضل من ترک بعده من ولده وكان وصی نوح سام وكان افضل من ترکہ بعده وكان وصی موسی یوشع وكان افضل من ترکہ وكان وصی سلیمان اصف بن برخیا وكان افضل من ترکہ وكان وصی عیسی شمعون بن فرخیا وكان افضل من ترکہ بعده والی اوصیت الی علی وهو افضل من اترکہ بعدی

حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کسی شخص کی عیادت کے ارادے

سے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ہم پر سے ہوا اور ہم لوگوں کے حلقے میں بیٹھے تھے اور ہم میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو ایسے شخص کے حال سے خبر دوں جو ہمارے نبی کے بعد اس ساری امت سے افضل ہے۔ اور ان دونوں شخصوں (حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ) سے برتر اور بہتر ہے۔

یہ سن کر حضرت سلمان فارسی ٹھہر گیا اور کہا کہ خدا کی قسم۔ اگر میں چاہوں تو اس امت کے افضل ترین شخص کے بارے میں بتا دوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں اور وہ ان دونوں یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی۔ یہ کہہ کر آپ جانے لگے لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبید - آپ نے کچھ نہیں کہا یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا درآنحالیہ آپ نزع کی حالت میں تھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے وصیت کی ہے کیا آپ نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمان کیا تم جانتے ہو کہ اوصیاء کون ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا وصی شیث تھا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل تھے حضرت نوح علیہ السلام کا وصی سام تھا وہ نوح علیہ السلام کی باقی ماندہ اولاد میں سب سے افضل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی یوشع تھا وہ ان کی اولاد میں سب سے افضل تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصی آصف بن برخیا تھا وہ ان سب سے افضل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصی شمعون تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی رہنے والوں میں سب سے افضل تھے میں نے علی کو اپنا وصی مقرر کیا ہے۔

وہ ان تمام سے افضل ہے جو میں چھوڑے جاتا ہوں۔

قارئین کرام اس حدیث کو اس طرق سے بھی لکھا گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

فَإِنْ وَصِيَّ وَوَارِثِي يَقْضِي دَيْنِي وَيُنْجِزُ مَوْعِدِي عَلَى بَنِي
أَبِي طَالِبٍ۔

بے شک میرا وصی و وارث میرے قرض کو ادا اور میرے وعدے کو پورا کرنے والا علی بن ابی طالب ہے۔

(الریاض النضرۃ ۲/ ۱۳۸) از محب طبری

مناقب الزہراء تصنیف امام زین الدین محمد بن عبدالرؤف المناوی ۱۰۳۱ھ
کا ترجمہ تخریج تحقیق تشریح جناب قاری ظہور احمد فیضی محقق اہلسنت
صفحہ ۱۴۴ تا ۱۴۳ پر اس حدیث کی تشریح لکھتے ہیں۔

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا

يَا فَاطِمَةُ اِمَّا الْخِيَا مَ اَلَيْتِ اَنْ الْكَعْكُ خَيْرٌ اَهْلِي
(فاطمہ میں نے اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ آپ کا نکاح
اپنے اہل بیت کے بہترین شخص سے کروں،

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے افضل
کوئی شخص نہیں تھا کیونکہ اسلام میں فضیلت کا معیار علم، حلم اور دین
میں سبقت ہے اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان
ساری باتوں میں مولیٰ علی فقط اہل بیت سے ہی نہیں بلکہ پوری امت
سے افضل فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی نکاح ہی کے موقع پر سیدہ
نے خاموشی سے رضا مندی تو ظاہر کر دی تھی۔ لیکن اس کے بوجھ
وہ اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ شکوہ کناں ہوئیں۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا۔

اما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلماً واکثرہم
علماً واعظمہم حلماً

کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے
کیا ہے جو اسلام کے لحاظ سے سب سے اعظم ہے۔

اس حدیث میں اقدم اہل بیٹی کے الفاظ نہیں بلکہ اقدم امتی
کے الفاظ ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ سیدہ فاطمہ علیہا السلام کے
شوہر فقط اہل بیت کرام کے افراد سے ہی نہیں بلکہ پوری امت کے
ہر فرد سے افضل ہیں۔

(مسند احمد ۵/۶۶ و ۹۴/۶ رقم ۲۰۵۳) (المعجم الكبير ۲۰/۲۶۹)

ابن ابی شیبہ ۶/۶۳۷

و عن ابی وائل عن عبد اللہ بن عمر قال اذا اعدنا
اصحاب النبی قلنا ابوبکر وعمر وعثمان
فقال رجل یا ابا عبد الرحمن فعلی ما هو قال علی من
اہل البیت لا یقاس بہ احد هو مع رسول اللہ فی درجۃ
ان اللہ یقول الذین امنوا واتبعہم ذریتہم بایمان
الحقنا بہم ذریاتہم ففاطمة مع رسول اللہ فی
درجۃ و علی معہما

حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام

کی گنتی کرتے تو کہتے کہ (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم) کس طرف ہیں انہوں نے جواب دیا کہ (حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم) اہل بیت میں سے ہیں۔ کسی کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین امنوا الخ وہ جنہوں نے ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان سے متعلق ان کا ساتھ دیا پس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے ساتھ ہے۔

اس حدیث کے ضمن میں شیخ محقق الشریف سیدی عبد اللہ بن صدیق الغامزی الحنفی قدس سرہ کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔
اپنی کتاب الكنز الثمین کے حاشیہ (ص ۳۵۰) میں

علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں کے تحت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں لطیف مشابہت ہے چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی اس لئے آپ کی نشوونما ہی توحید پر ہوئی۔

آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ اقدس کو مکرم رکھا اور اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں سے فقط انہیں اپنا بھائی بنایا۔ پس ان کا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی قربت کا رشتہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنا ان کے ساتھ ہمیشگی و وابستگی اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا نہیں اپنے علوم کا وارث اپنی شریعت کا امین اپنی رسالت کا محافظ
 اپنے اخلاق کا حامل اور اپنی صفات سے متصف قرار دینا آپ کی
 خصوصیات ہیں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے بڑھ
 کر علم فقہت اور دینی بصیرت کے مالک تھے، آپ تمام صحابہ
 رضی اللہ عنہ سے زیادہ باریک بین مفتی اور دلیل و برہان کے حامل تھے
 اصابت رائے میں آپ تمام صحابہ کرام پر فوقیت رکھتے تھے۔
 ہمارے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد مبارک کافی ہے۔
 کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اور انہوں نے فرمایا میں اس
 پیچیدہ مسئلے کے وقت زندہ نہ رہوں جس کے حل کے
 لئے ابوالحسن موجود نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لئے
 فرمایا میرے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے جیسا کہ ہارون کا موسیٰ علیہ السلام
 سے تھا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث میں اس جانب
 اشارہ ہے کہ علوم اور عرفان حقائق کی خلافت علی کے لئے ہے جو کہ
 وحی کے بغیر نہیں آتی جیسا کہ غلو کرنے والوں نے دعویٰ کیا۔ چنانچہ قبیلہ
 کلب کے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا
 اے امیر المومنین بے شک آپ کو غیب کا علم عطا کیا گیا ہے آپ نے
 مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اے قبیلہ کلب کے بھائی یہ علم غیب
 نہیں ہے۔ یہ تو صرف صاحب علم غیب سے استفادہ ہے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے اور سکھانے ہی کی بنا پر
 آپ حقائق و معارف سے بہرہ ور ہوئے آپ علماء عارفین کے
 خلیفہ ہیں اسی لئے آپ کے علاوہ صحابہ میں سے کسی کو بھی امام
 نہیں کہا گیا ہے۔ اس حدیث میں موجود مشابہات موافقات

سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اہمیت میں اس درجے پر پہنچ گئے تھے جہاں پر لائق و قابل شاگرد کا مزاج اپنے استاد کے مزاج سے کامل طور مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بلند مقام و مرتبے پر تمہارے لیے یہی دلیل کافی ہے

۳ = وعن احمد بن محمد الكروري البغدادي قال سمعت عبد الله بن احمد بن حنبل قال سئلت ابي عن التفصيل فقال ابو بكر وعمر وعثمان ثم سكت فقال يا ايت ابن علي ابن الجي طالب قال هو من اهل البيت لا يقاس به هؤلاء

حضرت احمد بن محمد الكروري البغدادي رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں اپنے والد احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے تفصیل سے متعلق پوچھا تو کہا کہ ابو بکر عمر اور عثمان پھر خاموش ہوئے میں نے کہا ابا جان علی بن ابی طالب کہا کہ **هو من اهل البيت لا يقاس به هؤلاء** وہ تو اہل بیت میں سے ہیں کسی کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث کے ساتھ ملتی جلتی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **نحن اهل البيت لا يقاس بنا احد** ہم اہل بیت ہیں ہم پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے۔

(ذخائر العقبی ص ۲۶) (کنز العمال ۳۴۲۰۱)

۴ = وعن ابن عباس قال قال رسول الله افضل رجال العالمين في زمانى هذا على وافضل نساء العالمين الاولين والآخرين فاطمه عليها السلام -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے زمانے میں ساری دنیا کے مردوں میں افضل یہ علی ہیں اور اگلی پچھلی تمام عورتوں میں افضل فاطمہ ہے -

یہ حدیث اس طرح درج ذیل کتابوں میں تھوڑا فرق کے ساتھ درج ہے
عن عبد الله بن مسعود قال كنا نتحدث ان افضل

اهل المدينة على بن ابى طالب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سے سب سے زیادہ افضل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں -

(راوہ البزار وفیہ یحییٰ بن اسکن وثقہ ابن حبان وضحفہ صالح جزیرہ وبقیۃ رجال ثقات)

امام احمد نے فضائل میں حدیث شعبہ بطریق ابی اسحاق از عبد الرحمن بن یزید از علقمہ از عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا

کنا نتحدث ان افضل اهل المدينة على بن ابى طالب ہم کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سب سے افضل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں -

(فضائل الصحابة رقم ۱۰۹۷ ، ۱۰۳۳)

حضرت سید میر کبیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چوتھی حدیث بیان کی ہے اس میں

افضل نساء العالمین الاولین و آخرین
فاطمہ علیہا السلام ترجمہ اگلی پچھلی تمام عورتوں میں افضل فاطمہ سلام اللہ
ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
نے فرمایا۔

ما رایت افضل من فاطمۃ غیر ابیہا
میں نے فاطمہ (علیہا السلام) سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ماسوا
اُن کے والد گرامی کے۔
(المعجم الاوسط رقم ۲۷۲۱)

۵ = وعن جابر قال قال رسول اللہ یوما بمحضر
المہاجرین والانصار یا علی یوان احداً عبد اللہ
حق عبادتہ ثم شک فیك واهلبیتک انکم
افضل الناس کان فی النار

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن انصار و مہاجرین کے محضر میں فرمایا
کہ اے علی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے مگر وہ تمہارے
اور تیرے اہل بیت کے افضل المخلوق ہونے میں شک کرے
وہ دوزخ میں جائے گا۔

۶ = وعن سلمان قال قال رسول الله اُولَکُم وروداً
 علی الحوض واولکم اسلاماً علی ابن ابی طالب
 حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے پہلے
 حوض پر پہنچنے والے علی اور پہلے اسلام لانے والے علی ہیں۔
 (کنز العمال ۶/۱۶ حدیث ۳۲۹۹۱)

۷ = وعن انس قال قال رسول الله انّ اخي ووزیری
 وخليفتی فی اهلی وخیر من اترک بعدی یقضی
 دینی وینجز موعدی علی ابن ابی طالب
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بے شک میرا بھائی میرا وزیر
 اہل بیت میں میرا خلیفہ اور ان سب لوگوں سے جن کو میں اپنے
 بعد چھوڑوں گا بہتر اور میرے قرضوں کا ادا کرنے والا ہے اور
 میرے وعدوں کو پورا کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔
 (ازجج المطالب اخرجه احمد فی مناقب) مولانا عبید اللہ امرتسریؒ

(۸) = ۷ - ۸ - ۱۴۶ حضرت ابو حمزہ ثمالی بیان کرتے ہیں کہ
 امام محمد باقر اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے آپ کا سر مطہر علی
 کی گود میں تھا

گھر انصار اور مہاجرین سے بھرا ہوا تھا آپ نے حضرت عباس
 سے فرمایا کہ چچا جان! کیا آپ مہرے وصیت کو قبول اور وعدوں

کو پورا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! میں بوڑھا آدمی ہوں اور میرے بچے زیادہ ہیں یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی! کیا تم میری وصیت کو قبول اور وعدوں کو پورا کرو گے؟ یہ سن کر آپ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کوئی جواب نہ دے سکے آنحضرت نے پھر اسی کلام کو دہرایا پس علی نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یہ جواب سن کر آنحضرت نے فرمایا کہ -

انت اخي ووصي ووزيری و خلیفتی

تم میرا بھائی، وصی، وزیر اور خلیفہ ہو۔

پھر آپ نے بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال! میری تلوار ذوالفقار لے آؤ پس وہ لے آئے اور آنحضرت کے سامنے رکھ دیا پھر فرمایا کہ اے بلال! میری خود ذوالنجدین لے آؤ پس وہ لے آئے اور آنحضرت کے سامنے رکھ دیا پھر فرمایا کہ اے بلال! میری زرہ ذات الفصول لے آؤ پس وہ لے آئے اور وہاں رکھ دیا پھر فرمایا کہ اے بلال! رسول اللہ کا گھوڑا مرتجز لے آؤ پس وہ لے آئے اور وہاں باندھ دیا پھر فرمایا کہ اے بلال! رسول اللہ کا ناقہ غضباء لے آؤ پس وہ لے آئے اور اس کا گٹھنا

باندھ دیا پھر فرمایا کہ اے بلال! رسول اللہ کا بردیمانی سحاب لے آؤ پس وہ لے آئے وہاں رکھ دیا پھر فرمایا کہ اے بلال! رسول اللہ کا تازیانہ مشوق لے آؤ پس وہ لے آئے اور وہاں رکھ دیا آپ ایک ایک چیز کا نام لیتے یکے بعد دیگرے

حاضر کر دیتے یہاں تک کہ رسول اللہ کا وہ ٹپکا جسے آپ کمر پر باندھتے اور دشمن سے جہاد کرتے، بھی حاضر کر دیا پھر آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اسے بھی علی کے حوالے کیا پھر فرمایا کہ اے علی! ان کو لے جاؤ اور انصار و مہاجرین کے سامنے اپنے گھر رکھ لو کسی کو میرے بعد ان سے متعلق تم سے جھگڑا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین گئے اور انہیں رکھ کر واپس آئے۔

۹ = وعن ابی صالح عن ابی سعید الخدری وعن ابی ہریرۃ قال ان رسول اللہ بعث ابا بکر بسورۃ براءۃ فلما بلغ ضحجان سمع بغار ناقۃ علی فعرۃ قال ما شانی قال خیر ان النبی قد بعثنی ببراءۃ فلما رجعنا انطلق ابو بکر الی رسول اللہ فقال یا رسول اللہ ما لی قال خیر وانت صاحبی فی الغار غیر انہ لا یباع عنی الا انا اور رجل منی یعنی علیا علیہ السلام حضرت ابو صالح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سورہ براءت دے کر بھیجا جب ضحجان کے مقام پر پہنچے تو علی کے نات کی آواز سنی اور انہیں پہچان لیا اور کہا کہ میرا کیا حال ہے؟ جواب دیا اچھا ہے نبی نے مجھے سورہ براءت دے کر بھیجا، (راوی کہتا ہے) جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو حضرت ابو بکر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ خیر وانت صاحبی فی الغار غیر انہ

لا يبلغ عني الا انا او رجل مني يعني عليا -
 اچھا ہے تم میرے یا رخا رہو مگر مجھ سے کوئی پیغام حق لوگوں تک
 میں خود پہنچا سکتا ہوں یا مجھ سے کوئی شخص یعنی علی
 فی المصدر عن ابی سعید عن ابی ہریرۃ قال فی المصدر (بعث ابابکر
 ببراءۃ فی المصدر) سمع بقاء علی ناقۃ و هو علی فی المصدر
 (فلما رجنا انطلق ابوبکر) (ذخائر العقبی ۶۹) (مودۃ القرنی ۲۳)

۱۰ = وعن عبد الله جويشقه ابن مرة العيرى
 عن جده قال اتى عمر ابن الخطاب رجلا من فسلاته
 عن طلاق الامه فانتهى الى حلقة فيها رجل
 اصلح فقال يا اصلح ما ترى في طلاق الامه
 فقال باصابعه و اشار بالسبابه و التي يليها فالتفت
 ابن الخطاب اليها فقال احدهما سبحان الله جئناك
 وانت امير المؤمنين و سئلناك عن مسئلة فجيئت
 الى رجل و الله ما كلمك فقال اتدرى من هذا قال لا
 لا قال عمر هذا على ابن ابى طالب اشهد انى
 سمعت رسول الله يقول لو ان ايمان اهل السموات
 و الارض وضع في كفة و وضع ايمان على في كفة
 فرجع ايمان على ابن ابى طالب

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جویشقہ بن مرہ عیری اپنے دادا سے روایت
 کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس دو آدمی کنیز کی طلاق کا معاملہ لے کر
 آئے پس حضرت عمر ایک حلقے کے پاس گئے جس میں ایک اصلح یعنی

گنجا شخص موجود تھا اور کہا کہ کنیز کی طلاق سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟
 انہوں نے انگلیوں کے اشارے سے جواب دیا کلمے اور منجھلی انگلی سے
 اشارہ کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے ان
 میں سے ایک نے کہا کہ سبحان اللہ ہم آپ کے پاس آئے کیونکہ
 آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ ہمیں ایک
 ایسے شخص کے پاس لے گئے جس نے آپ سے بات تک نہیں
 کی آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ جواب دیا ہم نہیں جانتے
 پس انہوں نے کہا کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں میں گواہی دیتا
 ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے
 کہ اگر زمین و آسمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور علی کا ایمان
 دوسرے پلڑے میں رکھ کر تو لا جائے تو علی والا پلڑا بھاری ہوگا۔
 (المنقب للغوازی ۱۳۱ حدیث ۱۳۵) (المنقب لابن المغازلی
 ۲۸۹ حدیث ۳۳۰) ذخائر العقبی .. کنز العمال ۱۱ / ۲۷ لا یوجد
 فی المصدر (جوشقہ) و فی نسخۃ (ن) عبد اللہ بن جوشقہ ،
 لا یوجد فی المصدر (العیری) حدیث ۳۲۹۹۳ فی المصدر
 فقال اتدری من هذا قال هذا علی ، فی المصدر
 (ان ایمان اہل السموات والارض بوضع)

۱۱ = وعن سلمان قال قال رسول الله اعلموا امتی
 من بعدی علی ابن ابی طالب
 حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ

جاننے والا علی بن ابی طالب ہے ۔

کنز العمال ۱۱ / ۶۱۴ حدیث ۳۲۹۷۷

۱۲ = وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ علی باب علمی
ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی حبه ایمان
وبغضه نفاق والنظر الیه رأفة ومودتہ عبادہ
رواہ ابو نعیم باسناد

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے امت کو میرے بعد میری امتی
ہوئی شریعت بیان کرنے والا ہے اس کی دوستی ایمان اور دشمنی
نفاق ہے اس کی طرف نظر مہربانی اور اس کی محبت عبادت ہے ۔
حافظ ابو نعیم نے اپنے اسناد کے ساتھ اسے نقل کیا ہے ۔

کنز العمال ۱۱ / ۶۱۴ حدیث ۳۲۹۸۱ لا یوجد فی المصدر

ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی

۱۳ = وعن سفیان الثوری عن منصور عن ابراہیم
النخعی عن علقمہ قال کنت عند عبد اللہ
ابن مسعود فسئل عن علی فقال قال رسول اللہ
قسمت الحکمة عشرة اجزاء فاعطی علی تسعة
اجزاء والناس جناءً واحداً

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ منصور سے ، منصور ابراہیم نخعی
سے وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن مسعود

کے پاس تھا پس علی سے متعلق پوچھا تو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کے دس حصے کئے ۹ حصے علی کو دیئے اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو

حلیۃ الاولیاء ۱ / ۶۵ المناقب لابن المغازی ۲۸۶ حدیث ۳۲۸

۱۴ = وعن ابن عمر قال قال رسول الله ان الله جمع في وفي اهدبیتی الفضل والشرف والسحاء والشجاعة والعلم والحلم وان لنا الاخرة ولكم الدنيا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے اہل بیت میں فضیلت، شرافت، سخاوت، شجاعت، علم اور تحمل کو جمع کیا ہے آخرت ہمارے واسطے اور دنیا تمہارے لئے ہیں۔

۱۵ = وعن جابر قال قال رسول الله انا مدينۃ العلم وعلى بابها

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ حدیث حضرت ابن مسعود اور حضرت انس سے بھی اسی طرح مروی ہے الصواعق المتحرقة ۱۲۳ حدیث ۹

اغریب الحاکم فی المستدرک ۳ / ۱۳۸ حدیث ۴۶۳۹

۱۶ = وعنه قال قال رسول الله لعلي يا علي انت مني
بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي
حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ یا علی تمہارا مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ مگر
میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

صحیح البخاری ۲۰۸/۴ صحیح مسلم ۴۴/۲
سنن الترمذی ۳۰۴/۵ حدیث ۳۸۱۴

۱۷ = وعن ابن عباس قال قال رسول الله
قسم العالم عشرة اجزاء فاعطى علي منها تسعة
وهو بالجزء العاشر اعلم من الناس
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے دس حصے کئے ان میں سے نو
علی کو دیئے وہ دسویں حصے میں بھی سب سے زیادہ جاننے
والے ہیں

مودۃ القربی ۲۳

۱۸ = وعن أبي عمر قال قال رسول الله علي
مني بمنزلة راسي من بدني
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ علی مجھ سے ایسا ہے جیسے میرے جسم کے ساتھ سر
فی المصدر مودۃ القربی وعن ابن عمر فی المصدر وعن ابن عباس

المناقب لابن المغازلی ۹۲ حدیث ۱۳۵

۱۹۔ وعن جابر قال قال رسول الله لا خير في امة
ليس فيهم اجد من ولد علي يا امر بالمعروف وينهى
عن المنكر۔

حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ اس گروہ میں کوئی بہتری نہیں جس میں اولاد علی میں
سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والا کوئی نہ ہو
مودۃ القرنی ۳۴

حضرت جابر ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
انا نذیر هذه الامة وعلي هاديها
میں اس امت کا نذیر ہوں اور علی اس کا ہادی ہے
مودۃ القرنی

محدث ہشتم

فی ان رسول الله وعلیاً من نور

۱ = وعن علی قال انطلق بی رسول الله الی کسر الاصنام
 فقال لی اجلس فجلست الی الجنب الکعبه ثم صعد
 رسول الله علی منکبی وقال لی انهض بی الی الصنم فنهضت
 به فلما رأی ضعفی تحته قال اجلس فجلست ونزل عنی
 وجلس علیه السلام فقال یا علی اصعد علی منکبی فصعدت
 علی منکبه ثم نهض بی رسول الله حتی خیل لی ان بوشت
 نلت السماء وصعدت علی الکعبه وتحنی رسول الله
 فالقی الصنم الاکبر صنم قریش وكان من
 نحاس موقداً اباً وتاد من حديد الی الارض فقال رسول الله
 عالجہ فلم ازل اعالجه ورسول الله يقول ایه ایه فلم
 ازل حتی قلعتہ فقال دقه فدقته وكسرتہ ونزلت
 حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے ساتھ میں بت توڑنے کے لئے روانہ ہوا آپ نے مجھ سے
 فرمایا کہ بیٹھ جاؤ پس میں کعب شریف کے ساتھ بیٹھ گیا۔
 پھر رسول اللہ میرے کاندھے پر چڑھے اور مجھ سے فرمایا کہ
 مجھے بت کے نزدیک بلند کرو میں نے آپ کو اوپر اٹھایا جب
 رسول اللہ کو نیچے میری کمزوری محسوس ہوئی تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ
 میں بیٹھ گیا اور آپ نیچے اتر آئے اور خود نیچے بیٹھ کر مجھ سے
 فرمایا کہ اے علی! تم میرے کاندھے پر چڑھو پس میں آپ کے

کاندھے پر بیٹھ گیا آپ نے مجھے اوپر اٹھایا میں نے خیال کیا کہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان پر جا سکتا ہوں میں کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا جبکہ رسول اللہ ایک طرف ہو گئے سب سے پہلے وہاں نصب سب سے بڑے بت جو قریش کا تھا اور تمانبے کا بنا ہوا وہ ہے کے میخوں سے جڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے اکھیڑ دو پس میں اسے اکھیڑنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا اور رسول اللہ میرا حوصلہ بڑھاتے اور ہاں ہاں فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے اسے اکھیڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اسے ریزہ ریزہ کر کے نیچے پھینک دو اور اٹل نیچے اتر آیا۔

(المستدرک للحاکم ۳/۵، المناقب للنخوازی ۱۲۳ حدیث ۱۳۹)

۲ = وعن ابی ذر الغفاری قال سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ اطع الی الارض اطلاعةً من عرشہ بلا کیف ولا زوال فاخترنی واختار علیاً لی صہراً جعلہ سید الاولین والآخرین والنبیین والمرسلین وهو الرکن والمقام والحوض والزمزم والمشعر الاعلی والجمرات العظام یمینہ الصفا ویسارہ المروة اعطاه اللہ ما لم یعط احداً من النبیین والملئکة المقربین قلناً وماذا یا رسول اللہ قال اعطاه فاطمة العذراء البتول ترجع فی کل لیلۃ بکراً ولم یعط ذالک احداً من النبیین واعطاه الحسن والحسین علیہما السلام ولم یعط احداً مثلہا واعطاه صہراً مثلی ولیس لاحد صہر

مثلی وجعله الله قسیم الجنة والنار ولم يعط ذالک الملئکة
وجعل شیعتہ فی الجنة واعطاه اخاً مثلی وليس لاحد اخ
مثلی ایہا الناس من شاء ان یطہی غضب الله ومن
اراد ان یقبل الله عملہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب
فان النظر الیہ فی الایمان وان حبہ یدیب السیئات کما
تذیب النار الرصاص

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش سے زمین کی
طرف دیکھا یہ بلا کیف وکم تمھارے مجھے اہل زمین سے منتخب فرمایا
اور علی کو میرا داماد چن لیا جو اولین، آخرین، انبیاء اور مرسلین کا سردار
ہے وہی رکن کعبہ، مقام ابراہیم، حوض کوثر، آب زمزم
مشعر اعلیٰ اور جبرات عظام ہیں ان کے دائیں طرف صفا اور بائیں جانب
مروہ ہیں اللہ نے انہیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو کسی نبی یا ملک مقرب کو
نہیں دی اسے فاطمہ عذرا دیا جو ہر شب باکرہ بن جاتی ہے ایسی زوجہ
کسی نبی کو نہیں دی حسن و حسین عطا کیا وہ جیسے کسی کو عطا نہیں کیے، مجھ
جیسا خسر دیا مجھ سا خسر کوئی نہیں، جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا نبیا
ایسا کسی فرشتے کو بھی نہیں بنایا ان کے دو ستار کے لیے جنت
ٹھکانا مقرر کیا انہیں مجھ جیسا بھائی عطا کیا مجھ جیسا بھائی
کسی کے لیے نہیں اے لوگو! جو اللہ کے غضب کو رفع کرنا اور

اپنے اعمال کو مقبول خدا بنانا چاہتے ہو تو اسے چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے
کیونکہ ان کی طرف نظر ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور ان کی محبت گناہوں
کو اس طرح پگھلا کر ختم کرتی ہے جس طرح آگ قلعی کو۔

۳ = وعن ام سلمه قالت سمعت رسول الله يقول
 سمي الناس المومنين من اجل علي ولو لم يؤمن علي لم يكن
 مومن في امتي وسمي فختار لان الله اختاره وسمي المرتضى
 لان الله ارتضاه وسمي عليا لانه لم يسم احد اقبلاه باسمه
 وسميت فاطمه بتولا لانها تبتلت كل ليله معناه
 ترجع كل ليله بكرا وسميت مريم بتولا لانها
 ولدت عيسى بكرا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے ہوئے سنا کہ :

لوگ علی کی وجہ سے مومن کہلاتے ہیں اگر علی ایمان نہ لانا تو میری
 امت میں کوئی مومن نہ ہوتا اس کا نام مختار ہے کہ اللہ نے
 اسے اختیار فرمایا ایک نام مرتضیٰ ہے کہ اللہ نے اسے برگزیدہ
 بنایا ایک نام علی ہے کہ پہلے اس نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا
 فاطمہ کو بتول کا نام اس لیے دیا کہ وہ ہرات باکرہ بن جاتی ہے ۔
 مريم بتول اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بحالت بکارت
 جنم دیا تھا ۔

٢ = وعن عباس ابن عبد المطلب في تسمية
 امير المؤمنين علياً قال لما حملت فاطمة بنت
 اسد بعلي وجاءت به فقالت التسمية لي وقال ابو
 طالب التسمية لي واحتكما الي ورقة ابن نوفل
 فقال ان كان ذكراً فالتسمية للاب وان كانت انثى
 فالتسمية للأُم فلما ولدت ذكراً قالت يا ابا طالب
 سم ابنك قال سميت الحارث قالت ما اسمي
 ابني الحارث قال لم قالت لانه اسم من اسماء
 ابليس فقال هلمى نعلوا باقبس ليلاً وندعوا صاحب
 الخضراء ففعلعه ينبناني ذاك يشي فلما
 امسيا وجنها الليل خرجا ففعلوا باقبس فلما حصلا
 عليه انشاء ابوطالب يقول - شعر -

يارب العشق الدجلى والفلق المبتلج المضى
 بان لنا عن امرك المقضى بما نسميه لذل الصبي
 فاذا خششة وجلية من السماء فرفع ابوطالب
 طرفه فاذا الوح من زبرجد خضريه اربعة اسطر فاخذه
 ابوطالب بكلي يديه وضمه الى صدره ضمًا شديدًا
 فاذا مكتوب فيه شعر -

خصصتما بالولد الذكى والطاهر المتجب الرضى
 واسمه من قاهر السمى على اشتق من العلى
 فسّر ابوطالب بذلك سرورًا عظيمًا وخسرًا جَدًّا
 الله تبارك وتعالى وعق بعشرة من الابل

واولم علیہ ولیمۃً وكان ذاك اللوح معلقاً
 بیت الحرام یفتخر به بنو هاشم علی قریش حتی
 اقتلعه عبد الملك بن مروان زمان قتال عبد الله
 بن زبیر -

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی کو امیر المومنین کہنے
 سے متعلق روایت ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کو حضرت علی کا محل
 ٹھہر گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے موسوم کروں گی۔ حضرت ابوطالب
 نے کہا کہ نام رکھنے کا میں حقدار ہوں چنانچہ یہ معاملہ ورقہ بن نوفل کے
 سامنے پیش ہوا انہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر بچہ ہوا تو نام رکھنے کا حقدار
 باپ اگر بچی ہوئی تو ماں حقدار ہے جب بچہ پیدا ہوا تو ابوطالب سے
 کہنے لگی کہ اے ابوطالب اپنے بچے کے لئے نام رکھئے انہوں
 نے کہا کہ میں نے اس کا نام حارث رکھ لیا انہوں نے کہا کہ میرے
 بچے کا نام حارث کیوں رکھتے ہو؟ ابوطالب نے پوچھا کیوں؟
 جواب دیا کہ حارث تو ابیس کے ناموں میں سے ایک ہے یہ
 سن کر ابوطالب نے کہا کہ اؤ رات کو کوہ ابو قیس پر چلتے ہیں وہاں
 سے نیلے آسمان کے مالک سے دعا کرتے ہیں شاید وہ اس
 معاملے میں کچھ آگاہ فرمائے جب شام ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو
 دونوں کوہ ابو قیس پر چڑھنے لگے جب اوپر پہنچے تو ابوطالب
 یہ شعر کہنے لگے۔

یارب غسق الدجی والفاق المبتاح المضى
 باين لنا عن امرک القضى بما نسئله لذلک الصبی
 اے رات کی تاریکی پھیلانے والے اور اے روشن صبح پیدا کرنے والے

رب! اپنے مقررہ فیصلے سے آگاہ کر کہ ہم اس بچے کا کیا نام رکھیں؟
 یکایک آسمان سے ایک دہشت ناک آواز آئی بو طالب نے آنکھ
 اٹھا کر دیکھا تو وہاں زبرد کی ایک تختی نظر آئی جس پر چار سطریں لکھی تھیں
 ابو طالب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھالیا اور زور کے
 ساتھ سینے سے لگایا اس پر یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے۔

خصمتما بالولد الذکی والطاهر المنتخب الرضی
 واسمه من قاهر السمی علی اشتق من العلی
 تم دونوں پاکیزہ، طاہر اور برگزیدہ و پسندیدہ فرزند کے نام کے لئے
 جھگڑتے ہو۔

ان کا نام خدائے قاہر کے ہم علی سے مشتق علی ہے۔
 یہ اشعار پڑھ کر ابوطالب بڑے مسرور ہوئے اور سجدے میں گر گئے
 اور دس اونٹوں سے عقیقہ کیا اور سب کو دعوت کھلائی یہ تختی بعد میں کعبہ
 میں آویزاں کی گئی اس بنا پر بنی ہاشم دوسرے قیدیوں پر فخر کیا کرتے
 تھے یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے ابن زبیر سے جنگ کے دوران
 اسے توڑ ڈالا۔

۵۔ وعن جابر قال قال رسول الله من اراد ان ينظر
 الى اسرافيل في هيبته والى ميكائيل في رقبته والى
 جبرئيل في جلالته والى ادم في علمه والى نوح في
 خشيته والى ابراهيم في خلته والى يعقوب في محزنه
 والى يوسف في جماله والى موسى في مناجاته والى
 ايوب في صبره والى يحيى في زهدہ والى عيسى في
 عبادته والى يونس في ورعه والى محمد في كمال
 حسبه وخلقہ فليَنظر الى علي فان فيه تسعين
 خصاله من خصال الانبياء جمعها الله فيه ولم يجمع
 في احد غيرہ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی چاہے کہ اسرافیل کو اس کی ہیبت، میکائیل
 کو ان کے رتبے، جبریل کو ان کی جلالت آدم کو ان کے علم
 نوح کو ان کی خشیت الہی، ابراہیم کو ان کی خلیلیت

ایوب کو ان کے صبر ، یعقوب کو ان حزن ، یوسف کو ان کے جمال
 موسیٰ کو ان کے مناجات ، یحییٰ کو ان کے زہد ، عیسیٰ کو ان کی عبادت
 یونس کو ان کی درع اور محمد کو اللہ سے کمال محبت اور اخلاق
 کے ساتھ دیکھے اسے چاہئے کہ علی کی طرف دیکھے کیونکہ انبیاء کرام
 کے خصال میں سے ۷۰ ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان
 میں جمع کیا ہے ان کے سوا کسی اور میں اتنی خصلتیں جمع نہیں
 ہوئی ہیں ۔

۶ = وعن عثمان قال قال رسول الله خلقت انا وعلی
 من نور واحد قبل ان یخلق الله ادم بأربعة الاف
 عام فلما خلق الله ادم ركب ذالک النور فی صلبه
 فلم یزل فی شیئی واحد حی افترقانی صلب
 عبد المطلب ففی النبوة و فی علی الوصیة
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میں اور حضرت علی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ۴ چار ہزار
 سال قبل ایک نور سے پیدا ہوا ۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام
 کو پیدا کیا تو یہ نور ان کی پشت میں رکھا گیا پھر لگاتار یہ نور ہمیشہ
 ایک ہی رہا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آکر ہم جدا
 ہو گئے پس مجھ میں نبوت ہے اور علی وصی ہے ۔

(المناقب لابن المغازلی حدیث ۱۳۰ فی المصدر و فی علی الامامة)
 (الفردوس للذہبی ۲ / ۱۹۱ حدیث ۲۹۵۲ عن سلمان فی المصدر)

۷۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ کنت انا وعلی نوراً بین یدی اللہ تعالیٰ معلقاً وکان ذالک النور قبل ان یخلق اللہ ادم باربعۃ عشارف عام فلما خلق اللہ ادم رکب ذالک النور فی صلبہ فلم یزل فی شئی واحد حتی افترق فی صلب عبد المطلب فجزء انا وجزء علی۔

(مسند الفردوس ۳/ ۲۸۳ حدیث ۴۸۰۱)
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ایک نور تھے اور وہ نور بارگاہ ایزدی کے سامنے معلق تھا اور یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے چودہ ہزار سال موجود تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کو ان کی پشت میں رکھا گیا اور وہ برابر ایک ہی رہا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آکر اس کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ تو میں ہوں اور ایک حصہ علی علیہ السلام۔

۸۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ خلقت انا وعلی من شجرة واحدة والناس من اشجار شتی
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے ہیں اور باقی لوگ مختلف درختوں سے ہیں۔

(المناقب للنخواری ۱۴۳ حدیث ۱۶۵ (عن جابر)
کنز العمال ۱۱/ ۶۰۸ حدیث ۳۲۹۴۳ لا یوجد فی المصنف خلقت۔

۹ = وعنه قال قال رسول الله خلق الانبياء من اشجار شتى وخلقني وعلياً من شجرة واحدة فانا اصلها وعلى فرعها والحسن والحسين اثمارها واشيا عن اوراقها فمن تعلق بها نجى ومن زاع عنها هوى

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا ہے میں اس درخت کی اصل ہوں اور علی اس کی فرع اور حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں اور ہمارے ماننے والے اس کے پتے ہیں جو اس سے وابستہ ہو انجات پائیا اور جس نے روگردانی کی وہ گمراہ ہوا۔

یہ حدیث اس طرح بھی آتی ہے

ابن عباس رضی اللہ عنہ انا شجرہ وفاطمہ حملاہا وعلى تعاجلها والحسن والحسين ثمرها والمحبون اهل البيت ورقها في الجنة حقاً حقاً

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں درخت ہوں فاطمہ اس کی کہنی ہے علی اس کا شکوفہ اور حسن و حسین اس کا پھل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ یہ سب جنت میں ہوں گے یہ حق ہے یہ حق ہے۔

(تہذیب تاریخ دمشق ۴/ ۳۲۱) (منہ الفرووس ۱/ ۵۲ حدیث ۱۲۵)

سخاوی استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زوی اشرف ۹۹

(۱۰) وعن ابی ذر قال انی سمعت رسول الله يقول ان الله تبارک وتعالیٰ اید هذا الذین بعلي وانه منی وانا منه وفيه انزل افمن كان علی بینه من ربہ ویتلوہ شاهدًا منه

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علی سے اس دین کی امداد کی ہے اور وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں اور یہ آیت مبارکہ علی کے حق میں نازل ہوئی ہے اَفَمَنْ كَانَ (الایۃ پارہ ۱۲ سورۃ ہود آیت ۱۷) تو کیا وہ شخص (انکار کر سکتا ہے) جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آگیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر اَفَمَنْ كَانَ والی آیت کے تحت لکھتے ہیں مَنْ كَانَ عَلٰی بَيِّنَةٍ جس کے پاس روشن دلیل ہو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔

الشَّاهِدُ هو علی بن ابی طالب گواہ سے مراد علی بن ابی طالب ہیں صاحب تفسیر مظہری، امام بغوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔

مَا مِنْ رَجُلٍ مِّنْ قُرَيْشٍ اِلَّا وَقَدْ نَزَلَتْ فِيْهِ اَيَّةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قریش میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس سے متعلق قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہو۔ یہ بات سن کر ایک آدمی نے عرض کی۔

وَأَنْتَ أَمِيُّ شَيْءٍ نَزَلَ فِيكَ قَالَ يَسْأَلُوهَ شَاهِدٌ مِنْهُ
 کہ آپ کے بارے میں کیا چیز نازل ہوئی فرمایا (یتلوہ شاهد منہ)
 یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے (مولائے کائنات کو شاہد اس
 لئے کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے۔
 فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ شَهِدَ بِصِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی سب سے پہلے گواہی دینے
 والے آپ ہی ہیں۔

حضرت قاضی شمس اللہ یانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے
 ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ کو شاہد کہنے کی قوی ترین وجہ
 یہ ہے کہ (إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ قُطْبَ كَمَالَاتِ
 الْوَلَايَةِ وَسَائِرِ الْأَوَّلِيَاءِ حَتَّى الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ
 عَلَيْهِمْ أَتْبَاعٌ لَهُ فِي مَقَامِ الْوَلَايَةِ
 بلاشبہ علی رضی اللہ عنہ تمام کمالات ولایت کے مرکزی نکتہ اور
 قطب ولایت تھے تمام اولیائے کرام بلکہ تمام صحابہ کرام بھی مقام ولایت
 میں آپ کے تابع ہیں۔

(کنز العمال ۲/۴۳۹ فی حدیث، (التفسیر المنطہری ج ۵ ص ۷۶)

۱۱۔ وعن علی قال قال رسول الله خلقنا من نور واحد -

من نور واحد -
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے (کنوز الحقائق ۹۲، فی المصدر
 عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

لعلی خلقت انا وانت من نور الله
(فرائد السمطين ۴۰/۱ حدیث ۴)

۱۲ - وعنه قال قال رسول الله لي يا علي اني رايت اسمك مقرونا باسمي في اربعة مواطن فالتفت بالنظر اليه لما بلغت في بيت المقدس في معراجي الى السماء وجدت على صخرة منها لا اله الا الله محمد رسول الله ايده بوزيره ونصرته بوزيره فقلت لجبرئيل ومن وزيرى قال على ابن ابى طالب فلما انتهيت الى سدره المنتهى وجدت عليها اني انا الله لا اله الا انا وحدي محمد صفوتي من خلقى ايده بوزيره ونصرته بوزيره فلما جاوزت من سدره المنتهى وانتهيت الى عرش رب العالمين فوجدت مكتوبا على قوائمه اني انا الله لا اله الا انا محمد حبيبي من خلقى ايده بوزيره ونصرته بوزيره فلما هبطت الى الجنة وجدت مكتوبا على باب الجنة لا اله الا انا محمد حبيبي من خلقى ايده بوزيره ونصرته بوزيره

جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے تمہارے نام کو اپنے نام سے ملا ہوا چار جگہ دیکھا میں نے توجہ کی نظر سے دیکھا اول معراج کے موقع پر جب میں بیت المقدس پہنچا ایک چٹان پر رکھا ہوا تھا لا اله الا الله محمد رسول الله ايده بوزيره ونصرته بوزيره -

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں میں نے اس کی وزیر کے ذریعے مدد و نصرت کی میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا وزیر کون ہے جواب دیا علی بن ابی طالب ۔ دوم جب میرے سدرۃ المنتہی پر پہنچا وہاں لکھا ہوا پایا ۔

انی انا اللہ لا اله الا انا وحدی محمد صفوتی من خلقی
ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ

میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں یکتا ہوں محمد میری مخلوق میں میرا برگزیدہ ہے میں نے اس کی وزیر کے ذریعے مدد و نصرت کی ۔

سوم ۔ جب میں سدرۃ المنتہی سے آگے بڑھا عرش الہی پر پہنچا تو اس کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا ۔

انی انا اللہ لا اله الا انا محمد حبیبی من خلقی
ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ

میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میری مخلوق میں محمد میرا حبیب ہے میں نے اس کی وزیر کے ذریعے مدد و نصرت کی ۔

چہارم ۔ جب میں جنت میں پہنچا تو اس کے دروازے پر لکھا تھا ۔

لا اله الا انا محمد حبیبی من خلقی ایدتہ بوزیرہ
نصرتہ بوزیرہ ۔

میرے سوا کوئی معبود نہیں میری مخلوق میں محمد میرا حبیب ہے میں نے اس کی وزیر کے ذریعے مدد و نصرت کی ۔

اس حدیث کو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي خَلَقْتُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِي
مُحَمَّدًا صَفَوْتِي مِنْ خَلْقِي أَيْدَتْهُ بَعْلِي وَنَصَرْتُهُ
بَعْلِي۔

بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے جنت عدن کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مخلوق میں سے چنے ہوئے پسندیدہ محبوب ہیں میں نے علی سے اُن کی تائید و امداد فرمائی۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۲۷ مطبوعہ بیروت (آل رسول) ۵۱۰)

اس حدیث کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

لَقَاعُرَجَ بِي رَأَيْتُ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَيْدَتْهُ بَعْلِي وَنَصَرْتُهُ
بَعْلِي

جب مجھے معراج کی شب اوپر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مُحَمَّدًا رسول اللہ کے رسول ہیں اور میں نے ان کی علی کے ساتھ تائید و نصرت فرمائی۔

اس حدیث کو حضرت امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ بغداد ۱۱/۳۱ پر نقل کیا ہے تفسیر درمثور ۴/۵۳ (جلال الدین سیوطی)

۱۳ وعن جابر قال قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا ان الملكة تستغفر لعلی وتشفق عليه وعلى شيعته اشفق من الوالد على ولده

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جابر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا فرشتے علی کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اور ان پر اور ان کے دوستوں پر باپ کے اپنی اولاد پر مہربان اور شفیق ہونے کی نسبت زیادہ تر مہربان اور شفیق ہیں۔

۱۴ - عن انس بن مالك قال كان عند النبي طير فقال اللهم انني يا حب خلقك اليك يا كل معي هذا الطير فجاء علي فاكل معه

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اے اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج دے وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کھایا۔

سنن الترمذی ۸۴۶ رقم ۳۷۲۱ مصابیح السنۃ للبخاری ۱۷۳/۲ رقم ۴۷۰۰ مشکاۃ المصابیح رقم ۶۰۹۳

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی حدیث منقول ہے مگر طیر کی بجائے ہدیہ کا لفظ مرقوم ہے۔ یعنی بھنا ہوا پرندہ ہدیہ میں آیا

مسند ابی حنیفہ لابی نعیم الاصبہانی ص ۲۳۴

یہ حدیث اس طرح بھی ہے۔

اخبرنا زکریا بن یحیی قال حدثنا الحسن بن حماد
قال اخبرنا مہر بن عبد الملائ عن عیسی بن عمر
عن السدی عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
كان عنده طائر فقال اللهم ائتني باحب خلقك
اليك يا كل معي من (هذا) الطير فجاء ابو بكر
فروده ثم جاء عمر فزده ثم جاء علي فاذن له
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ موجود تھا
آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج دے
جو تیری محفوق سے زیادہ محبوب ہو تاکہ وہ میرے ساتھ اس
پرندہ سے کھائے پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں
نے انہیں واپس بھیج دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں
نے انہیں واپس بھیج دیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں
نے انہیں اجازت دی

السنن الکبری للنسائی ۷ ص ۴۱۰ رقم ۸۳۴۱

۱۵ وعن عامر بن سعد بن ابی وقاص من ابیہ

سمعت النبی یقول یوم خیبر لا عطین الرایۃ
رجلاً یحب اللہ ورسولہ وحبہ اللہ ورسولہ فتناولنا
لہا فقال ادعوا لی علیاً فاتاہ وبہ رمد فبصق فی
عینہ فبرؤ ودفع الرایہ ففتح اللہ علیہ

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے

روایت کی ہے کہ میں نے جنگ خیبر کے دن نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میں اپنا علم ایسے شخص
کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ساتھ محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس سے محبت رکھتا ہے۔ ہم نے علم کی تمنا میں اپنی گردنیں
دراڑ لیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا جب
وہ آئے تو آشوب چشم میں مبتلا تھے تب آپ نے
ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تو وہ اچھی ہو گئیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم انہیں عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ
کے ذریعے فتح نصیب فرمائی۔

مفاتیح الجنّة والنّار

مودّت نہم

۱ عن ابوسعید الخدری قال قال رسول اللہ
ان اللہ اعطانی مفاتیح الجنّہ والنّار فقال یا سلمان
قل لعلی فولا تخرج من تشاء وتدخل من تشاء

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت و دوزخ
کی کنجیاں عطا فرمائی پس فرمایا کہ اے سلمان رضی اللہ عنہ حضرت
علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہو کہ جس کو چاہو نکالو گے اور جس کو چاہو
داخل کرو گے۔

(المصدر السابق مودة فی القربی ،

۲ وعن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ یا علی یخ یخ
مثلک والملائکة تشاق الیک والجنّة والنّار لک فاذا
کان یوم القيامة ینصب لی منبر من نور ولا براهیم
منبر من نور ولک من نور فتجلس علیہ واذا ما دیناری
یخ یخ من وحی حبیب انت بین حبیب وخیل ثم اوتی
بمفاتیح الجنّة والنّار فادفهما الیک

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم) سے ارشاد فرمایا کہ اے علی
واہ واہ تیری مانند کون ہو سکتا ہے فرشتے تیرے شقائق ہیں۔

جنت تمہارے لئے ہے قیامت کے دن میرے لئے نور کا منبر
نصب کیا جائے گا اور ایک منبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے
اور ایک منبر نور کا تمہارے لئے رکھا جائے گا۔ جب تم اس پر بیٹھو
گے تو منادی پکارے گا کہ واہ واہ ایک وصی حبیب و خلیل کے
درمیان ہے پھر جنت اور دوزخ کی کنجیاں لائی جائیں گی اور تمہیں دے
دی جائیں گی۔

(المصدر السابق فی المصدرانہ اذا)

۳ وعن ابن عباس قال قال رسول الله يا ابن
عباس عليك بعلي فان الحق على لسانه وجنانه
وان النفاق بجانبه ان هذا قفل الجنة ومفتاحها و
قفل النار ومفتاحها به يدخلون الجنة وبه يدخلون
النار

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس علی کی تابعداری اپنے اوپر لازم کر لو،
کیونکہ حق علی کی زبان اور دل کے ساتھ اور نفاق اس سے دور ہے
یہ علی جنت کا قفل اور کنجی ہے اسی طرح دوزخ قفل و کنجی ہے وہ جنت
اور دوزخ میں لوگوں کو داخل کریں گے۔

۴ وعن جابر قال قال رسول الله اذا كان يوم القيامة
ياتيني جبرئيل وميكائيل بحزمتين من المفاتيح
الجنة اسماء المومنين من شيعه محمد و علي

وعلى مفاتيح النار اسماء الميغضين من اعدائه
 فيقولان يا احمد هذا ميغض وهذا
 محبك فادفعها الى علي ابن طالب فيحكم
 فيهم بما يريد فوالذي قسم الارزاق لا يدخل
 ميغضه الجنة ولا محبه النار ابداً

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس جبرئیل علیہ السلام
 اور میکائیل علیہ السلام دونوں کبھیوں کے دو گچھے لائیں گے ایک
 گچھا جنت کی کبھیوں کا دوسرا دوزخ کی کبھیوں کا ہوگا۔ جنت
 کی کبھیوں پر محمد و علی کے دو ستاروں کا نام اور دوزخ
 کی کبھیوں پر ان سے عناد رکھنے والے دو شمنوں کا نام کندہ ہوگا
 وہ دونوں مجھ سے کہیں گے کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ تیرا دشمن اور یہ تیرا دوست ہے۔ پس اسے علی کے سپرد کریں
 وہ جیسا چاہیں۔ حکم دے رزق بانٹنے والی ذات کی قسم وہ
 مبغض کو جنت میں اور محب کو دوزخ میں کبھی داخل نہیں
 کریں گے۔

۵ وعن مسروق رضي الله عنه عن عائشة
 قالت سمعت رسول الله يقول لعلي حسبك ان
 ليس لمحبك حسرة عند موته ولا وحشة
 في قبره ولا نزع يوم القيامة
 مسروق نے عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا

سے سنا ہے کہ وہ علی سے فرماتے تھے اے علی تم کو یہی کافی ہے کہ تمہارے محبوب کو نہ تو اپنی موت کے وقت کچھ حسرت ہوگی اور نہ قبر میں اس کو کسی قسم کی وحشت ہوگی۔ اور نہ قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اس کو لاحق ہوگا۔

۶ وعن علی قال قال رسول الله لا تستحقوا بشیعة علی فان رجل منهم یشفع فی مثل ربیعہ ومضر

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حامیان علی کو حقیر نہ جانو ان میں سے ہر ایک بنو ربیعہ و مضر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

۷ وعن ابن عباس قال قال رسول الله علی وشیعته هم الفائزون یوم القیمة۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علی اور ان کے دوستانہ نجات پائیں گے۔

(کنوز الحقائق ۹۲)

۸ وعن علی المرتضیٰ قال قال رسول الله بشر شیعتک انا الشفیع لهم یوم القیامة وقتاً لا ینفع مال ولا بنون الا شفاعتی

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں ۔ کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوستوں کو بشارت دو کہ میں ان کی بروز قیامت شفاعت کروں گا۔ جس دن میری شفاعت کے سوا مال و اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی ۔

(مودۃ القرنی لا یوجد فی المصدر (یا علی)

۹ وعنه قال قال رسول الله لي يا علي انك تقرر باب الجنة فتدخلها بلا حساب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تم باب جنت کھٹکھٹاؤ گے تو بلا حساب اس میں داخل ہو گئے (المصدر السابق (یا علی)

۱۰ وعن النبي من كان اخر الكلام الصلوة على وعلى علي يدخله ذلك الجنة روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام مجھ پر اور علی پر درود (شریف) ہو وہ جنت میں جائے گا (مودۃ فی القرنی المصدر السابق لا یوجد فی المصدر (ذال)

۱۱ وعن ابن عمر قال كنا نصلّي مع النّبیّ
فالتفت الینا فقال ایّها الناس هذا ولیکم بعدی فی
الدنیا والآخرۃ فاحفظوه یعنی علیاً

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے پس آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا اے لوگو! یہ علی میرے بعد دنیا و آخرت میں (ولی) ہے
پس تم اس کی حفاظت کرنا۔

۱۲ وعن جابر قال قال رسول اللہ اوّل شلمۃ
فی الاسلام مخالفة علی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پہلا رخنہ
علی کی مخالفت ہے۔

۱۳ وعن علی قال قال رسول اللہ لی یا علی لا یغضک
من الانصار الا من کان اصلہ یہودیاً

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی انصار میں سے کوئی تم سے
بغض نہیں کرے گا مگر وہ جس کی اصل یہودی ہو۔
(یعنی وہ یہودی نسل ہوگا)

۱۳ وعن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله
سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اسلام میں
سبقت کرنے والے ہیں ہم میں سے جو کوئی اپنے نفس
پر ظلم کرنے والا ہے وہ بخشا جائے گا۔

۱۵ وعن علي المرتضى عليه السلام قال قال
رسول الله يا علي انت اخي وانت رفيقي في الجنة
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے
بھائی اور جنت میں میرا رفیق ہے۔

۱۶ وعن ابي ذر قال قال رسول الله لعلي يا علي
من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعك فقد
اطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن
عصاك فقد عصاني۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد
فرمایا کہ اے علی میری اطاعت گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے
اور تیری اطاعت گویا میری اطاعت ہے۔ اسی طرح
میری نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تیری نافرمانی میری

نافرمانی ہے (الریاض النضرۃ ۲/ ۱۶۷)

۱۷ وعن عمران بن الحصین قال قال رسول اللہ
سئلت ربی ان لا یدخل احدًا من اہلبیتی
فی النار فاعطانیہا۔

حضرت عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ
سے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالنے کی دعا کی جسے
قبول فرمایا۔

(کنز العمال ۱۲/ ۹۵ حدیث ۳۴۱۴۹)

۱۸ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ
فی قولہ تعالیٰ وقفوہم انہم مسئلون
عن ولایۃ علی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
گرامی ہے۔ وقفوہم انہم مسئلون۔ اور انہیں
روک لو ان سے سوال کیا جائے گا (کی تفسیر میں فرمایا کہ ان سے
ولایت علی رضی اللہ عنہ کی بابت سوال کیا جائے گا۔

(صواعق المحرقة ۱۴۹)

(شہاب الدین احمد حجری)

آج کل اس پرفتن دور میں خارجی ناصبی ملاں مولائے کائنات

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تنقیص کرتے ہوئے اکثر بھولے بھالے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں کہ کون سا بروز قیامت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی غلطی کے بارے میں سوال ہوگا تو پھر یہ آیت ملاحظہ فرماؤ۔

یوم ندعوا کل اناس بامامہم وقفوہم
انہم مسئلون (الصافات ۳۷)

جس دن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے مع ان کے اماموں اور انہیں ساتھ کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جائے گا۔

دیلمی ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا لوگوں سے پوچھا جائے گا حضرت علی کی ولایت کے بارے میں امام ابی الحسن علی بن احمد معروف واحدی (اسباب النزول) کی مراد بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

مولانا شاہ اسماعیل دہلوی منصب امامت صفحہ ۱۱۰ پر لکھتے ہیں
یوم ندعوا کل اناس بامامہم وقفوہم
انہم مسئلون (الصفۃ)

جس دن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے مع ان کے اماموں کے اور انہیں ساتھ کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

انہم مسئلون عن ولایتہ علی

ان سے حضرت علی کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

۱۹ عن فاطمة قالت ان نظر الی علی وقال
هذا وشيعته فی الجنة

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ میرے والد گرامی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ یہ
اور اس کے دوست جنت میں ہوں گے۔

۲۰ وعن عتبہ بن الازہری عن یحییٰ بن عقیل
قال سمعت علیاً یقول قال رسول اللہ ان اللہ
امرني ان ازوجک فاطمة علی خمس الدنیا
او علی ربعها شک فیہ عتبہ فمن مشی علی الارض
وهو یبغضک فی الدنیا فالدنیا علیہ حرام
ومشیہ فیہا حرام

عتبہ بن ازہری نے حضرت یحییٰ بن عقیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا کہ وہ
فرماتے تھے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا
اے علی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو
دنیا کے پانچویں حصے یا اس کے چوتھے حصے کے مہر پر
تمہارے ساتھ نکاح دوں (پانچویں یا چوتھے حصے میں عتبہ کو
شک ہو گیا ہے) کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں حصہ
کہا یا چوتھا) پس جو کوئی زمین پر چلے اور وہ دنیا میں تم سے
دشمنی رکھتا ہو دنیا اس پر حرام ہے اور زمین پر چلنا بھی اس
مبغض علی پر حرام ہے (

عدد الائمة الاطهار

مودت و هم

۱ عن الشعبي عن عمر بن قيس بن عبد الله قال كنا جلوساً في حلقة فيها عبد الله ابن مسعود فجاء اعرابي فقال ايكم عبد الله ابن مسعود فقال انا عبد الله ابن مسعود قال احدثكم نبياكم كم يكون بعده من الخلفاء قال نعم اثنا عشر عدد نقباء بني اسرائيل -

حضرت شعبی حضرت عمر بن قیس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک حلقے میں بیٹھے تھے جس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کہا کہ تم میں عبد اللہ بن مسعود کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں بارہ نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر خلفاء ہوں گے۔

قارئین کرام اس حدیث سے خلفاء باطنی مراد ہیں۔ جیسا کہ حضرت قاضی شمس اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر منظر ہری ۳۲۰ پر تحریر کرتے ہیں۔

لان علیاً و الآئمة من اولاده كانوا قطاباً للکمالات الولایة حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کی اولاد سے گیارہ امام کمالات ولایت کے اقطاب ہیں

۲ وعن الشعبي عن المسروق قال
 بينما نحن عند عبد الله ابن مسعود نعرض عليه
 مصاحفنا اذ قال له فتى هل عهد اليكم نبيكم
 كما يكون من بعده خليفة قال انك لحدث
 السن وان هذا شئ ما سئلتني احد قبلك
 نعم عهد الينا نبينا انه يكون بعده اثنا
 عشر خليفة بعد نقيب بني اسرائيل
 حضرت شعبی حضرت مسروق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ہم عبد بن مسعود
 رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے اپنے اپنے قرآن انہیں سنا
 رہے تھے اتنے میں ایک نوجوان نے ان سے کہا کیا تمہارے
 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے عہد لیا ہے کہ اس
 کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے انہوں نے جواب دیا تم ابھی نو عمر
 ہو یہ ایسا سوال ہے جسے تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا
 ہاں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے عہد لیا ہے
 کہ بارہ نقباء نبی اسرائیل کی تعداد کے برابر بارہ خلفاء ہوں گے
 (مجمع الزوائد ۱۹۰/۹ المستدرک للحاکم ۴/۵۰۱)

ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ان حدیثوں سے خلفاء باطنی کا
 ذکر ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا محقق عظیم قاری ظہور احمد فیضی حفظہ اللہ
 نے بڑے دلائل کے ساتھ

(اتحاف الساکت بما الفاظہ من المناقب والفضائل المعروف مناب
 الزہر التصنیف امام زین الدین محمد بن عبدالرؤف المنادی کے
 ترجمہ تخریج تحقیق تشریح میں صفحہ ۱۵۹ پر لکھا ہے۔

اکثر صوفیاء و علماء کے نزدیک تلم ہے کہ خلافت باطنیہ اور ولایت باطنیہ کی درامی قیامت تک اہل بیت کے پاس ہے۔
 علماء و صوفیاء نے فرمایا ہے کہ غیر فاطمی شخص ولایت میں درجہ قطبیت تک جاتا ہے مگر قطب الاقطاب کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔
 ہمیشہ فاطمی شخص ہی ہوتا ہے بلکہ اس کو جو قطبیت ملتی ہے وہ بھی فاطمی قطب الاقطاب کے توسط سے ہی ملتی ہے۔

(منصب ولایت خلافت باطنی)

فَوَضَّ هَذَا الْمَنْصَبَ الْعَالِي إِلَى الْحَسَنِ وَبَعْدَ
 هُمَا إِلَى الْأَيْمَةِ الْأَشْعَثِ عَلَى التَّرْتِيبِ

حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بعد یہ منصب عالی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو تفویض فرمایا۔ اور ان کے بعد یہ ولایت کا منصب ترتیب وار بارہ امام کے سپرد ہوا

(مکتوبات مجدد الف ثانی ۳/ مکتوب ۱۲۳)

۳ وعن جریر عن اشعث عن عبد الله
 ابن مسعود قال قال رسول الله الخلفاء بعدى
 اثنا عشر كعد و نقباء بنى اسرائيل
 حضرت جریر بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارہ نقباء
 بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے۔

ضروری وضاحت حدیث خلفاء

لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم
اثنا عشر خليفة كلهم تجمع عليه الامة
(سنن ابی داود شریف)

مندرجہ بالا حدیث - کو حضرت امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین طریق
سے بیان فرمایا - اور امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث
کو نو طریقوں سے نقل فرمایا - حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث
تین طریق سے بیان فرمائی - حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث
خلفاء ایک طریق سے بیان فرمائی - اس حدیث کی شرح میں
متعدد اقوال بیان ہوئے ہیں - ان بارہ خلفاء سے مراد کون ہیں -
اور اس حدیث کو حدیث مشکل شمار کیا گیا ہے -

بعض محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو اگر خلفاء راشدین
پر منطبق کیا جائے - تو ان کی تعداد بارہ سے کم ہے - اور حدیث
میں خلفاء کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے -

لہذا اس حدیث مبارکہ کو خلفاء راشدین پر منطبق کرنے سے
حدیث کی مراد پوری نہیں ہوتی - اور اگر اس حدیث مبارکہ کو
اموی حکمرانوں پر محمول کیا جائے - تو ان کی تعداد بارہ سے زیادہ
ہے پھر ان میں اکثر فاسق و فاجر ہیں -

لہذا اس حدیث سے مراد اموی حکمران بھی نہیں ہو سکتے
اسی طرح اگر عباسی بادشاہوں کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد بھی بارہ
سے زیادہ بنتی ہے لہذا اس حدیث سے مراد عباسی حکمران
بھی نہیں ہو سکتے -

(صفحہ ۷۰، بارہ امام بزبان خیر الانام علامہ صفدر رضا قادری،)

۴ وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال كنت مع الجـ عند رسول فسمعت يقول بعدى اثنا عشر خليفة ثم اخفى صوته فقلت لابي ما الذى اخفى صوته رسول الله قال قال كلهم من بنى هاشم -

حضرت عبد الملک بن عمیر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے اپنے والد کے ساتھ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرمایا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے پھر آواز پست کی میں نے والد سے پوچھا پست آواز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جواب دیا فرمایا کہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے

(مسند احمد ۵ / ۹۲ / سنن ابی داود ۴ / ۳۰۹)

حدیث ۲۷۹۴ فی المصدر (عمرہ)

وعن سماک ابن حرب مثل ذلك

اور سماک بن حرب سے بھی ایسی ہی روایت ہے -

۵ وعن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي قال دخلت على النبي فاذا الحسين على فخذه وهو يقبل عينيه و يقبل فاه ويقول انت سيد ابن السيد وانت

امام ابن الامام وانت حجة ابن الحجة وانت ابو حجب
تسعة من صلبائ تاسعهم قائمهم

حضرت قیس بن سلیم ہلالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسین آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کی آنکھیں اور منہ چومتے اور فرماتے کہ تم سردار اور سردار کے بیٹے ہو تم امام اور امام کے بیٹے ہو تم حجت الہی اور حجت الہی کے بیٹے ہو تم نوحجت الہی کے باپ ہو جو تیرے پشت سے ہوں گے نواں قائم ہوگا۔

یہ حدیث اس طرق پر بھی ہے۔

انما نزلت فی فی اخی علی بن ابی طالب فی ابنی
وفی تسعة من ولد ابنی العین خاصة لیس معنا
فیہا لاحد شرك -

بے شک یہ آیت میرے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب اور میرے دو بیٹوں اور میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی اولاد سے نو کے ساتھ خاص ہے اور ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔

(فرائد السمطين ۲۱۶)

مذکورہ بالا روایت میں اولاد امام حسین علیہ السلام کے نو افراد سے مراد

سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام، سیدنا امام نقی علیہ السلام، سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام اور سیدنا امام محمد مہدی

۶ وعن اصبخ بن نباتہ عن عبد اللہ بن عباس قال سمعت رسول اللہ يقول انا وعلی والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین مطہرون معصومون۔

حضرت اصبخ بن نباتہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میں علی حسن حسین اور نو اولاد حسین اور معصوم ہیں۔

(فرائد السمطين ۲/۳۱۳ حدیث ۵۶۳)

۷ وعن عبابہ ابن ربیع قال قال رسول اللہ انا سید النبیین وعلی سید الوصیین وان الاوصیاء بعدی اثنا عشر اولہم علی واخرہم قائم المہدی حضرت عبابہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سید الانبیاء ہوں اور علی سید الاوصیاء ہیں اور میرے بعد بارہ اوصیاء ہوں گے پہلا علی اور آخری مہدی قائم ہوگا۔

(فرائد السمطين ۲/۳۱۳ حدیث ۵۶۳)

۸ وعن علی قال قال رسول اللہ من احب ان
یركب سفینة النجاة ویستمسک بالعروة
الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین فلیوال علیا
یعدی ویعاد عدوه ولیاتم بالانمة الهداة من
ولده فانهم خلفائی واوصیائی وحجج اللہ علی
خلقه بعدی وسادة امتی وقادة الاتقیاء الی الجنة
حزبہم حزبی - وحزبی حزب اللہ - وحزب
اعدائہم حزب الشیطان

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کشتی
نجات پر سوار ہونا مضبوط رستے کو تھامنا - اللہ تعالیٰ کی مضبوط
رسی کو پکڑنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ میرے بعد علی سے دوستی
اور اس کے دشمن سے دشمنی کرے اس کی اولاد میں سے
آئمہ ہدیٰ کی نافرمانی نہ کرے کیونکہ وہی میرے بعد خلفاء
اور خلقت پر حجت الہی ہیں وہی امت کے سردار جنت
کی جانب اتقیاء کا قائد ہیں ان کی جماعت میری جماعت ہے
میری جماعت اللہ کی جماعت ہے اور ان کے دشمن کا
گروہ شیطان کا گروہ ہے۔

۹ وعنه قال قال رسول اللہ لا تذهب الدنیا
حتی یقوم بامرامتی رجل من ولد الحسن یملا
الارض عدلاً کما ملئت ظلماً

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اولاد حسین میں سے ایک شخص میری امت کا حاکم نہ ہو دنیا فنا نہیں ہوگی وہ دنیا کو عدل سے ایسا بھرو دے گا جیسا پہلے ظلم سے پُر تھی ۔

۱۰. وعن زید بن حارثہ مولی رسول اللہ قال لما کان الدلیلة التي اخذ فیہا رسول اللہ علی الانصار بیعة الاولی فقال اخذت علیکم بما اخذ اللہ النبیین من قبلی ان تحفظونی وتمنعونی عما تمنعوا انفسکم وتمنعوا علی ابن ابی طالب عما تمنعون انفسکم عنه وتحفظونه فانہ الصدیق الاکبر یرید اللہ دینکم بہ وان اللہ اعطی موسی العصا وابراہیم برد النار وعیسی الکلمات التي کان یحی بها الموتی واعطانی هذا وأشار الی علی ولکل نبی ایة وهذا یرجى والاممة الطاہرین من ولده ایات ربی لن تخلوا الارض من اهل الایمان ما بقی اللہ احدا من ذریته وعلیہم تقوم القيامة جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے بیعت لی تو ان سے فرمایا کہ میں تم سے وہی عہد لیتا ہوں جسے اللہ ہر نبی سے لیتا رہا کہ تم میری حفاظت کرو اور مجھے

ان سے بچاؤ جن سے تم خود کو بچاتے ہو اور علی کو ان سے بچاؤ جن کو تم خود کو بچاتے ہو اور اس کی حفاظت کرو کیونکہ وہی صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہارے دین کو تقویت دے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات دی جن کے ذریعے مردے زندہ ہوتے اور مجھے یہ دیا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جانب اشارہ کیا ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے۔
یہ اور اس کی اولاد سے ائمہ طاہرین میرے رب کی نشانیاں ہیں جب تک اس کی ذریت میں سے کوئی باقی ہوگا۔ زمین ایمان سے خالی نہیں ہوگی اور انہی کی بنیاد پر قیامت برپا ہوگی۔

۱۱ وعن ابن عباس قال قال رسول الله ان الله فتح هذا الدين بعلي فاذا مات علي فسد الدين ولا يصلحه الا المهدي بعده

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کو علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کے ذریعے فتح عطا کی جب علی کا (انتقال) ہوگا تو دین میں شرارت پیدا ہوگی جس کی اصلاح مہدی کے سوا کوئی نہیں کر سکے گا۔

۱۲ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ولولہ یبق من الدنیا الا یوماً واحداً لیبعث اللہ فیہ رجلاً من اہل بیتی فی امتی یواطی اسمہ اسمی براق الجبین ویفتح قسطنطنیہ وجبل و سلم ویروی ہذا الخبر بطریق اخر و ذالک ولو ثم یبق من الدنیا الا یوماً واحداً الطول اللہ ذالک الیثم حتی یبعث رجلاً من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم الجی یملاء الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا طول دے گا کہ اہل بیت سے میرا ہم نام اور روشن جبین ایک شخص بھیجے گا جو قسطنطنیہ اور جبل و سلم کو فتح کرے گا۔

اسی حدیث کا دوسرا حصہ ۱۳ ویروی ہذا الخبر شروع ہوتا ہے۔ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا طول دے گا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص بھیجے گا میرا نام اور اس کا نام میرے والد اور اس کے والد کا نام ایک ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھرا ہوا ہوگا۔

(المصدر السابق وقد سقط من الینابیع مودۃ القرنی ۳ سنن الترمذی

۱۳ - وعن علي المرتضى عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الانمة من ولدي فمن اطاعهم فقد اطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله وهم عروة الوثقى وهم الوسيلة الى الله تعالى

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئمہ میری اولاد سے ہوں گے جس نے ان کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہی مضبوط دستہ اور اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔

۱۴ - وعنه عليه السلام قال قال رسول الله يخرج رجل من ما وراء النهر يقال له الحارث الحراث على مقدمه رجل يقال له منصور يوطن اويمكن لال محمد كما مكنت قریش لرسول الله وجب على كل مو من نصره او قال اجابته

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماوراء النہر سے حارث الحراث نامی ایک شخص خروج کرے گا اس سے آگے منصور نامی شخص ہوگا وہ آل محمد کو تمکین و قعت دے گا جس طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا۔ ہر مومن پر اس کی مدد فرض ہے یا فرمایہ

کہ اس کا حکم ماننا فرض ہے۔

کنز العمال ۱۴/۵۷۲ حدیث ۳۹۶۳۸ ، ۱۱/۳۷۰ حدیث ۲۱۷۸۰
فی المصدر (یخرج من وراء النهر رجل)

۱۵ وعن ابی لیلی الاشعری قال قال رسول اللہ
تمسکوا بطاعة ائمتکم فان طاعتهم طاعة اللہ
ومعصیتهم معصیۃ اللہ

حضرت ابولیلی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ائمہ کی پیروی کرو
کیونکہ ان کی پیروی اللہ کی پیروی اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے

۱۶ - وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ
الامام الضعیف ملعون یعنی من یحتاج
الی غیرہ فی امور الدین

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام ضعیف
ملعون ہے۔ یعنی جو امام دینی امور میں غیر کا محتاج ہو۔

فضائل سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء علیہا السلام

موودت یازدہم

عن عبد اللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ
 لما خلق اللہ ادم وحواء کانا یفتخران
 فی الجنۃ فقالا ما خلق اللہ خلقا احسن منا فیہما
 هما کذا کذا اذ رأیا صورة جاریۃ لها نوری
 شعشعانی یکاد ضوءہ یطفی الابصار وعلی
 راسہا تاج وفی اذنها قرطان قالوا وما
 هذه الجاریۃ قال هذه صورة فاطمہ بنت
 محمد سید ولدیک فقالا وما هذا التاج
 علی راسہا قال هذا بعلہا علی ابن ابی طالب
 قالوا وما هذا القرطان قال الحسن والحسین ابناہا
 وجد ذالک فی غامص علمی قبل ان
 اخلقک بالفی عام

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے -
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے آدم علیہ السلام وحواء علیہما السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت
 میں فخر کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہتر کسی کو پیدا
 نہیں کیا اسی وقت انہوں نے ایک لڑکی کی صورت دیکھی جس
 سے نور چمک رہا تھا۔ اور اس کا نور آنکھوں کو خیرہ کر دیتا
 ہے اس کے سر پر ایک تاج اور دونوں کانوں میں دو گوشوارے

ہیں انہوں نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ یہ لڑکی کون ہے ارشاد ہوا کہ یہ صورت تیری اولاد کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے سر پر تاج کیا ہے ارشاد ہوا یہ اس کا شوہر علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ پوچھا اس کے کانوں میں گوشوارے کیا ہیں ارشاد ہوا یہ اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں اس کا وجود تمہارے پسند کرنے سے دو ہزار سال پہلے میرے پوشیدہ علم میں موجود تھا۔

(مودۃ القربی) ۳۱ = لایوجد فی المصر (قالا)
وما هذه المجاریة - سید الاولین والاخرین فی المصدک
"وجد ذلک فی غامض عامی نیابیع المودة
۳۲۰/۲ حدیث ۹۲۲)

۲ وعن علی المرتضیٰ قال قال رسول اللہ ان
فاطمۃ احصنت فرجها فحرمها اللہ تعالیٰ
وذریتها علی النار
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ پاک امن ہے
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد پر آتش جہنم
کو حرام کر دیا۔

(المناقب للنخوارزمی ۳۵۳ حدیث ۳۰۳ المستدرک للحاکم
۱۵۲/۲ حلیۃ الاولیاء ۱۸۸/۳)

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔

(طبرانی، المعجم الکبیر ۲۲ - ۴۰۷ حدیث ۱۰۱۸)

(حاکم المستدرک ۳ = ۱۶۵ حدیث ۴۷۲۶)

۳ - وعنه قال قال رسول الله انما سميت ابنتي فاطمة لان الله فطمها و فطم وجهها من النار
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبوبوں کو آتش جہنم سے دور کیا ہے۔

(فرائد السمطين ۱/ ۵۷ حدیث ۳۸۴)

(کنز العمال ۱۲/ ۱۰۹ حدیث ۳۴۲۲۷)

یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے دیلمی نے الفردوس بجا طور الخطاب ۱/ ۳۴۶ حدیث ۱۳۸۵ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

سخاوی نے استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوی الشرف (۹۶) میں کہا ہے کہ اسے دنیوی نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے

(فی المصدر) (ما سمعت ابنتی فاطمہ ان)

۴ - وعن جميع ابن عمير قال دخلت مع عمتي
على عائشة فقالت عمتي لعائشة من كان احب النساء
الى رسول الله قالت فاطمة قالت ومن الرجال قالت
على ابن ابي طالب -

حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی پھوپھی
کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر
ہوا اور پوچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب
تھا۔ جواب دیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کیا گیا مردوں میں
سے کون زیادہ محبوب تھا فرمایا ان کے شوہر

(فی المصدر قالت زوجها ان كان ما علمت صواباً قواماً)

جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور
راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔

اخرجه الترمذی فی السنن کتاب المناقب ، باب ما جاء فی فضل فاطمہ
بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۵ / ۷۰۱ حدیث ۴۸۷۳

تہذیب الکمال ۴ / ۵۱۲ واشوکافی فی در السعایۃ ۱ / ۳۷۲

وابن الاثیر فی اسد الغابۃ ۷ / ۲۱۹ والذہبی فی سیر اعلام النبلاء ۲ / ۱۲۵

۵ - وعن فاطمه قالت انها زارت النبي فبسط لها
ثوباً فاجلسها عليه ثم جاء ابنها الحسن فاجلسه
ثم جاء الحسين فاجلسه ثم جاء علي فاجلسه
معهم ثم ضمّ الثوب عليهم ثم قال هؤلاء
اهل بيتي وانا منهم اللهم ارض عنهم كما انا راض عنهم

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کپڑا بچھایا پھر سن آیا انہیں بھی اس پر بٹھایا پھر حسین آیا انہیں بھی اس پر بٹھایا پھر علی آیا انہیں بھی اس پر بٹھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے کو ہمارے گرد لپیٹ لیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں میں بھی ان سے ہوں اے اللہ تو ان سے خوش ہو جیسا کہ میں ہوں (مجمع الزوائد ۱۶۹/۹) عن علی علیہ السلام فی المصد رکحانا راض عنہم

۶ وعن ابن عباس قال لما تزوج فاطمة من علي قالت يا رسول الله زوجتي من عائل لا مال له فقال لها النبي او ما ترضين ان يكون الله اطلع الى اهل الارض فاختر منهم رجلين احدهما ابوك والاخر بعلك

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کر دی گئی تو انہوں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مجھے ایک محتاج شخص سے بیاہ دیا ہے جس کے پاس کسی قسم کا مال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم خوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو دیکھا پس ان میں سے دو شخصوں کو چن لیا ان میں سے ایک تمہارا باپ اور دوسرا تیرا شوہر

(المعجم الكبير ۲۷۷/۵ حدیث ۱۰۹۹۰)

۷ - وعن فاطمة قالت قال رسول الله اما ترضين ان تكوني سيّدة نساء العالمين او نساء اُمّتي -

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے - جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم خوش نہیں کہ تم تمام عالم کی عورتوں کی یا فرمایا اُمت کی عورتوں کی سردار ہو -

(المستدرک ۳ / ۱۵۵ حدیث ۴۷۹۳)

۸ - وعن ابی بريدة الاسلمی قال دخلت مع رسول الله على فاطمة قال اما ترضين ان تكوني سيّدة نساء هذه الامة كما كان مريم بنت عمران سيّدة نساء بني اسرائيل -

حضرت بريدة اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس اُمت کی عورتوں کی سردار ہو جس طرح حضرت مریم بنت عمران بنی اسرائیل کی سردار تھی -

لم اقف عليه في نسخة من مودة القربى

حلیۃ الاولیاء ۲ / ۴۰ ، صحیح البخاری ۷ / ۱۲۱

فی حدیث مسند احمد ۶ / ۲۸۲ قاصدیت ،

۹ - وعن رسول الله وانما سميت فاطمه بالبتول
لأنها تبتلت من الحيض والنفس لان ذلك
عيب في بنات الانبياء او قال نقصان
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام علیہا،
کو بتول اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہے،
کیونکہ یہ دو انبیاء کی بیٹیوں میں عیب یا فرمایا نقصان ہے۔
(لقب بتول کی حکمت)

سیدہ کا لقب بتول اس لئے رکھا گیا کہ اُن میں میلان نہیں تھا
جو دوسری عورتوں میں مردوں کے لئے ہوتا ہے یا اس لیے رکھا
گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال اور شرف و فضیلت
میں دوسری عورتوں سے منفرد بنایا۔ یا اس لیے کہ وہ مخلوق
سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھیں۔ لفظ بتول کا مادہ
(ب ت ل) ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا دوسری
چیز سے ممتاز اور جُدا ہونا۔

چنانچہ امام فروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

والشئ میزہ عن غیرہ والبتول = المنقطعة عن
الرجال و مریم العذراء رضی اللہ عنہا
کالبتیل۔ و فاطمۃ بنت سید المرسلین علیہما
الصلوة والسلام، لانقطاعہا عن نساء زمانہا ونساء
الامة فضلاً و دیناً و نسباً و المنقطعة عن الدنیا
الى اللہ تعالیٰ

وہ شے جو دوسری چیز سے ممتاز ہو بتل ہے اور بتول اس خاتون کو کہتے ہیں جو مردوں سے میلان نہ رکھتی ہو اسی معنی میں کنواری مریم رضی اللہ عنہا بتول ہیں اور فاطمہ بنت سید المرسلین علیہا الصلوٰۃ والسلام بتول ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے زمانے کی خواتین اور امت کی خواتین سے فضیلت دین اور شریف الاصل ہونے کے لحاظ سے ممتاز تھیں اور دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھیں۔

(شرح اتعاف السائل بما الفاطمة من المناقب والفضائل ۲)
قاری طہور احمد فیضی

۱۰۔ وعن عائشة قالت قال رسول الله فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاني
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا نخت جگر ہے جس نے اسے اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔

۱۱۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول الله اولا من دخل الجنة فاطمه بنت محمد مثلها في هذه الامة مثل مريم بنت عمران في بني اسرائيل
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت

فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت میں جائے گی اس امت میں اس کی مثال
 بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہا السلام جیسی ہے۔
 (کنز العمال ۱۲ / ۱۱۰ حدیث ۳۴۲۳۴)

۱۲ - وعن علی المرتضیٰ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم القیمة نادى
 مناد من وراء الحب غصنوا البصار کم حتی تجوز
 فاطمة بنت محمد علی الصراط

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پس پردہ
 سے کوئی منادی (نہادے) گا کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ
 پل صراط سے گزر جائیں۔

(المستدرک للحاکم ۳ / ۱۵۲ مجمع الزوائد ۹ / ۲۱۲)
 المناقب لابن المحازی ۳۵۵ حدیث ۴۰۴)

۱۳ - وعن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اذا قدم من سفر قبل نحر فاطمة وقال منها
 اشقر رائحة الجنة

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو حضرت
 فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گلا چومتے تھے اور فرماتے میں اس سے جنت
 کی خوشبو سونگھتا ہوں۔

یہ حدیث اس طریق سے بھی ہے۔

عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اذا قدم من سفر قیل ابنتہ فاطمہ
حضرت عمر اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ
سلام اٹھلیا کو بوسہ دیتے۔

طبرانی المعجم الاوسط ۲/۲۴۸ حدیث ۴۱۰۵ ہشٹی نے مجمع الزوائد
۴۲/۸ میں کہا ہے کہ طبرانی نے اسے الاوسط میں روایت کیا ہے
اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سیوطی، الجامع الصغیر فی اجادیش
البشیر النذیر ۱۸۹ حدیث ۳۰۳ مناوی فیض القدیر ۵/۱۵۵

۱۴۔ وعن علی قال قال رسول اللہ تاتی بنتی فاطمہ
یوم القیامۃ ومعہا شیاب مصبوغة بالدماء تتعلق
بقائمة من قوائم العرش تقول یا حکم ا حکم
بنی وبین من قتل ولدی فی حکم اللہ لبنتی ورب
الکعبة۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی
فاطمہ سلام اٹھلیا میدانِ حشر میں آئے گی اس کے پاس خون
آلود کپڑے ہوں گے عرش کے ستون کو پکڑ کر عرض کرے گی
یا حکم میرے اور میرے بیٹوں کے قاتلوں کے درمیان انصاف
فرما رب کعبہ کی قسم میری بیٹی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

(المناقب لابن المغازلی ۶۴ حدیث ۹۱)

۱۵ - وعنه عليه السلام ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطان العرش يا اهل القيامة اغمضوا ابصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد مع قميص مخضوب بدم الحسين فتحتوى على ساق العرش فتقول انت الجبار العدل اقض بينى وبين من قتل ولدى فيقضى الله بنتى ورب الكعبة ثم تقول اللهم اشفعنى فيمن بكى على مصيبتة فيشفعها الله فيهم -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا - جب قیامت کے دن عرش کے وسط سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر! اپنی آنکھیں نیچی کر لیں حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون حسین شہداء کو بلا سے زنجین قمیض لئے گزر جائے پس ساق عرش کو پکڑ کر عرض کرے گی - اے اللہ تو جبار اور عادل ہے میرے اور میرے فرزند کے قاتل کے درمیان فیصلہ فرما۔ پس اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے حق میں فیصلہ فرمائے گا پھر وہ عرض کرے گی یا اللہ جو میری مصیبت پر روئے ہیں مجھے ان کا شفیع بنادے تب اللہ انہیں شفیع بنائے گا۔

(مودة القرني ۲۲ - فی جمیع النسخ (اغمضوا) فی المصدر

۱۶ وعن زید بن علی عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی ستۃ اشہر باب فاطمة عند صلوة الفجر فیقول الصلوة الصلوة یا اہلبیت النبوة ثلث مرات انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویروى هذا الخبر باسانیدہ من ثلثمائة من اصحابہ منہم من قال ثمانیۃ اشہر ومنہم من قال تسعة اشہر ومنہم من قال عشرة اشہر -

حضرت زید بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ۶ ماہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے کہ اے اہل بیت نبوی نماز نماز پھر آپ پر تلاوت فرماتے -
انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اللہ تعالیٰ تم اہلبیت سے نجاست دور کرنا اور تمہیں پاک و پاکیزہ بنانا چاہتا ہے -

یہ حدیث اپنے اسناد کے ساتھ کئی صحابہ سے مروی ہے بعض نے ۶ یا ۸ ماہ بعض نے ۹ ماہ اور بعض نے ۱۰ ماہ کا ذکر کیا ہے -

(ترمذی الجامع الصحیح ۵ / ۳۵۲ رقم ۳۲۰۶)

احمد بن حنبل المسند ۳ / ۲۵۹ = ۲۸۵

ابن حبان نے طبقات المحمیین باصبہان ۴ / ۱۴۸ میں حضرت ابوسعید خدری سے مروی اس روایت میں آٹھ ماہ کا ذکر کیا ہے

فضائل اہلبیت معاجملہ زیادہ علی عامر

موودت دوازدهم

۱۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عليكم بعلی فان الشمس عن یمنه والقمر عن یساره قلنا یا رسول الله وما هما قال الحسن والحسین وابوہما ضیاء الدنیا واما بدر الدجی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیروی کرو کیونکہ آفتاب ان کے دائیں طرف اور ماہتاب ان کے بائیں جانب ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں کیا ہیں ارشاد فرمایا حسین و حسین علیہ السلام ہیں ان کا باپ دین کا نور ہے اور ماں شب تار میں بدر کاٹل ہے۔

۲۔ وعنه قال قال رسول الله علی وفاطمہ والحسن والحسین الی یوم القیامۃ اہلی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی وفاطمہ حسن اور حسین یوم قیامت تک میرے اہل بیت ہیں۔

۳ - وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ان
ملکاً من السماء لم یزرنی فاستاذن اللہ فی زیارتی
فبشرنی الی یوم القیامۃ واخبرنی ان فاطمہ سیدۃ
نساء اهل الجنة والحسن والحسین سیدا شباب
اهل الجنة

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا وہ اللہ
تعالیٰ سے اجازت لے کر میری زیارت کے لیے آیا اور اس نے مجھے
قیامت تک کی بشارتیں دیں اور مجھے خبر دی کہ حضرت فاطمہ
ذکیہ عابدہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین
علیہ السلام دونوں جوانان بہشت کے سردار ہیں۔

(طبرانی المعجم الکبیر ۳/۳۶ حدیث ۲۶۰۴)

(نسائی السنن الکبریٰ ۵/۱۴۶ حدیث ۸۵۱۵)

(سنن ترمذی ۵/۳۲۶ حدیث ۳۸۷۰)

۴ - وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية
قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى
قلنا يا رسول الله من قرابتك الذين فرض الله علينا
مودة لهم قال علي وفاطمة وابناهما ثلث مرات
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب آیت
قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة (الشوریٰ ۲۳)
نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ

کے قربت دار کون ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین بار ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث تھوڑے فرق کچھ تھوڑے درج ذیل کتابوں میں ہے۔

(اخرج الطبرانی فی المعجم الکبیر ۴/۳۷۷ حدیث ۲۶۴۱)

(مجمع الزوائد ۹/۱۶۸، الفضائل لاجمہ ۲/۶۶۹ حدیث ۱۱۴۱)

۵ - وعن ابی ہریرۃ قال نظر رسول اللہ الی علی وفاطمۃ والحسن والحسین قال انا حرب حاربکم وسلم لمن سالمکم۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی وفاطمہ حسن و حسین کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم سے لڑنے والوں سے لڑنے والا اور صلح کرنے والوں سے صلح کرنے والا ہوں۔

(ابن حبان الصحیح ۱۵/۴۳۴ حدیث ۶۹۷۷)

(طبرانی المعجم الاوسط ۵/۱۸۲ حدیث ۵۰۱۵)

۶ - وعن معاذ قال قال رسول اللہ ان اللہ طهر قومًا من الذنوب بالصلع فی رؤسہم وانا وعلیٰ منہم۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اصلع

بنا کر ان کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ اگا کر ان کو گناہوں سے پاک کیا میں اور علی ان میں سے ہیں ۔

(الفردوس الدلیلی ۱/۱۶۱ حدیث ۵۹۴)

۷ - وعن علی قال قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وابوهما خير منهما
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن حسین علیہ السلام جو انان بہشت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بہتر ہیں ۔

(المستدرک للحاکم ۳/۱۶۴ مجمع الزوائد ۹/۱۸۳)

سنن ابن ماجہ ۱/۴۴ حدیث ۱۱۸

۸ - وعن فاطمة قالت جئت مع الحسن والحسين الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السكرات التي مات فيها فقلت ورثهما شيئا فقال صلى الله عليه وآله وسلم اما الحسن فله هيبتي وسودى واما الحسين فله جراتي وجودي

حضرت فاطمہ عابدہ زکیہ سلامہ اللہ علیہا سے روایت ہے کہ میں جن حسین کو لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی جب کہ آپ سکرَات کی حالت میں تھے میں نے عرض کیا انہیں کچھ عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن کے لیے میری سیادت اور رعب اور حسین کے لیے میری جرات اور فیاضی ہے،

(طبرانی المعجم الکبیر ۲۲ / ۴۲۳ حدیث ۱۰۴۱ ، سوکافی در الصلوة ۱۳۱۰)
 ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ۱۲۹ ،
 الصواعق المحرقة ۱۹۱ حدیث فضائل البیت

۹ - وعن ابی السعید الخدری قال قال رسول اللہ
 ان اللہ احب حرما ت ثلاث من حفظها حفظہ اللہ
 امر دینہ ودنیاه ومن لم یحفظہا لم یحفظ اللہ
 لہ شیئا حرمة الاسلام وحرمتی وحرمة اہلبیتی
 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ۳ تین
 حرمتیں محبوب ہیں جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس
 کے دینی اور دنیوی امور کی حفاظت فرمائے گا ورنہ کچھ نہ کرے گا وہ
 اسلام اور میری اور میرے اہل بیت کی حرمتیں ہیں -
 (مجمع الزوائد ۱۶۸ / ۹ ، الصواعق المحرقة ۲۳۳ -
 فی المصدر ان اللہ احب حرما ت فی المصدر لم یحفظہا
 لیس لہ شی فی المصدر وحرمة الاسلام وحرمة
 اہل بیتی -

۱۰ - وعن امیر المومنین علی قال قال رسول اللہ
 الولد ریحانة وریحانتای الحسن والحسین -

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے پھول ہوتے

ہیں میرے پھول حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام ہیں۔

(کنز العمال ۱۲/۱۲۰ حدیث ۳۴۲۸۷)

یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ یوں ہے۔

عن ابی ایوب الانصاری قال دخلت علی رسول اللہ
والحسن والحسین یلعبان بین یدیه اونی حجرہ نقلت
یا رسول اللہ اتحبہما فقال کیف لا احبہما وہما ریح
نساء من الدنیا اشمہما

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن علیہ السلام
و حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا گود میں کھیل
رہے تھے میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ
ان سے محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں جب کہ یہ دونوں میرے
گلشن دنیا کے وہ دو پھول ہیں جن کی مہک کو سونگھتا ہوں
انہی پھولوں کی خوشبو سے میں محفوظ ہوتا ہوں۔

(طبرانی المعجم الکبیر ۴/۱۵۵ حدیث ۳۹۹۰)

(عسقلانی فتح الباری ۷/۹۹)

۱۱۔ وعنہ قال قال رسول اللہ اشتد غضب اللہ
وغضب رسولہ علی من احتقر ذریعتی واذا فی
فی عترتی۔

حضرت علی المرتضیٰ اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اولاد کی تذلیل کر کے یا انہیں اذیت دے کر مجھے تکلیف دے اس پر اللہ اور اس کے رسول کا سخت غضب ہوگا۔

۱۲ - وعنه قال قال رسول الله الويل لظالم اهل بيتي عذابهم مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت پر ظلم کرنے والے کیسے لیے بربادی ہے اسے جہنم کے تہہ میں منافقین کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔

(المناقب لابن المغازلی ۶۶ حدیث ۹۴)

۱۳ - وعن فاطمة قالت قال رسول الله كل بني ادم ينتسبون الى عصة ابيهم الا ولد فاطمة فاني انا ابوهم وانا عصبتهم۔

حضرت فاطمہ عابدہ زکیہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے سوا ہر آدمی کی اولاد ان کے باپ کے قبیلے کی طرف منسوب ہوتی ہیں پس میں خود ان کا باپ اور قبیلہ ہوں۔ یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ اس طرح ہے۔

عن فاطمة الکبریٰ قالت قال رسول الله كل بني انثى عصبته ينتسبون اليه الا ولد فاطمة فاننا

ولیسہم وانا عصبہم
حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کی اولاد
کا خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں۔ ماسوائے
فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے پس میں ہی ان کا باپ اور
قبیلہ ہوں

(ابویعلیٰ - المسند ۱۲/۱۰۹ حدیث ۶۷۴۱)

(خطیب بغدادی ۱۱/۲۸۵)

(طبرانی المعجم الکبیر ۲۲/۴۲۳ حدیث ۱۰۴۲)

۱۴ - وعن علی قال قال رسول اللہ امرت ان اسمی
ابنی ہذین حسناً وحسیناً -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اپنے
بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھوں۔

اس حدیث سے ملتی جلتی حدیث اس طرح ہے -

عن الفضل قال ان اللہ حب اسم الحسن والحسین
حتی سبی بہما النبی ابنیہ الحسن والحسین -

حضرت مفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خداوند متعال نے
حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ناموں کو حجاب میں رکھا
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام حسن علیہ السلام
اور حسین علیہ السلام رکھا۔ (ابن اثیر اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ ۱۳/۲)

۱۵ - وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وهو اخذ باب الکعبۃ ویقول ایہا الناس من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہم فانا ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول مثل اہلبیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق -

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ لوگو جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں جو نہیں جانتے میں انہیں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں ابو ذر ہوں میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پاگیا اور جس نے روگردانی کی وہ غرق ہو گیا۔

(المستدرک للحاکم ۳/ ۱۵۰)

المصدر ابن عباس ذکرہ الہیثمی فی مجمع الزوائد ۹/ ۱۶۸

ذخائر العقبی الطبری ۳۰

۱۶ - وعن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمی ہارون ابنیہ شبرا وشبیرا وعلی سماہا حسنا وحسینا -

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام
 شبر و شبنیر رکھا میں نے اپنے بیٹوں کا حسن و حسین رکھا
 (طبرانی المعجم الکبیر ۶/۲۶۳ حدیث ۶۱۶۸)
 (الصواعق المحرقة ۱۹۲ حدیث ۲۷)

۱۷ - عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 الحسن والحسين يوم القيامة عن جنبي عرش
 الرحمن بمنزلة الشنفين من الوجه -
 حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
 حسن و حسین عرش الہی کے دونوں جانب ایسے ملے ہوں گے جیسے
 کسی چہرے پر دونوں ہونٹ ملے ہوتے ہیں -
 (الفردوس الدینی ۲/۵۸۸ حدیث ۲۸۰۴)

۱۸ - وعن قال الحسن اشبه لرسول الله ما
 بين الصدر الى الرأس والحسين اشبه لرسول الله
 ما كان اسفل من ذلك

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن علیہ السلام
 سینے سے لے کر سر تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 زیادہ تر مشابہ ہے اور حضرت حسین علیہ السلام سینے سے
 نیچے کے حصے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ

مشابہ ہے۔

(سنن الترمذی ۵/ ۳۲۵ حدیث ۳۸۶۸ مسند احمد ۱/ ۱۰۸۰۹۹)
 ایک سینے تک مشابہ اک وہاں سے پاؤں تک
 خط طوام میں لکھا ہے یہ دو ورق نور کا
 (اعلیٰ حضرت)

۱۹ - وعن عمران بن الحصین قال قال رسول الله
 النظر الى علي عبادۃ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے
 اس حدیث کو امام الحاکم نے مستدرک ۳/ ۱۴۱، ۱۴۲ نے فرمایا
 یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور (ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء ۲/ ۱۸۲
 میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی تائید میں ملاحظہ فرمائیں۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رایت ابا بکر یکثر النظر
 الی وجہ علی فقلت لہ یا ابت ارج تکثر النظر الی وجہ
 علی فقال یا بنیۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقول النظر الی وجہ علی عبادۃ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے
 والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔
 پس میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت

سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کی طرف دیکھتے
رہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے میری بیٹی
میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ
علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
(اخرجه ابن عکرم فی تاریخ دمشق الجبیر ۴۲/۳۵۵)
(والزمخشری فی متحضر کتاب الموافقة ۱۴)

۲ - عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادۃ
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
(اخرجه الحاكم فی المستدرک ۳/۱۵۲ حدیث ۴۶۸۲)
(والطبرانی فی المعجم الجبیر ۶۱۵ حدیث ۱۰۰۰۶)
والبن نعیم فی حلیۃ الاولیاء ۵/۱۵۸ -

۳ عن طلیق بن محمد قال رایت عمران بن حصین
یعدہ النظر الی علی فقیل لہ فقال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی علی عبادۃ
حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ
وجہہ الکریم کو ٹھٹھکی باندھ کر دیکھ رہے تھے کسی نے ان سے

پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
(اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر ۱۸/۱۰۹ حدیث ۲۰۰)

۲۰۔ وعن عائشة قالت قال رسول الله ذكر
على عبادة

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے (یعنی ذکر علی کرنا)
(اخرجہ الدیلمی فی مسند الفردوس ۲/۲۴۴ حدیث ۱۳۵۱)

۲۱۔ وعن الحسين قال قال رسول الله لي يا بني انك
لكبدى طوبى لمن احبك واحب ذريتك
فالويل لقاتلك يوم الجزاء

حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے تم میرا جگر ہو قیامت کے دن تم تمہاری ذریت کے دوستداروں کے لیے مبارک اور تمہارے قاتل کے لیے بربادی ہوگی۔

۲۲۔ وعن علي قال قال رسول الله يقتل الحسين
شهادة الامة ويتبرأ الله منهم ومن ولدہم

وَمَنْ يَكْفُرْ بِي

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین علیہ السلام کو اس امت کا بدترین شخص قتل کرے گا اللہ ان سے ان کی اولاد اور میرے منکرین سے بیزار ہے۔

۲۳ - وعن قال قال رسول الله ان قاتل الحسين في تابوت من النار عليه نصف عذاب اهل النار وقد شديداه ورجلاه من سلاسل من نار فيكب في النار حتى يقع في نار جهنم وله ريح يتعوذ اهل النار الى ربهم من شدة نتن ريحه وهو فيها خالد في العذاب الاليم كلما نضج جلده شيد الله عليه الجلود حتى يذوق العذاب الاليم لا يفت ر ساعة ويسقى من حميم جهنم فالويل له من عذاب الله

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین علیہ السلام کے قاتل کو آگ کے تابوت میں نصف دوزخیوں کے برابر عذاب دیا جائے گا۔ ہاتھ و پیر آتشیں زنجیر سے بندھے ہوں گے۔ منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا وہ جہنم کی تہیں جا کرے گا اس کی بدبو سے اہل دوزخ خدا کی پناہ مانگیں گے وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا جب اس کی جلد جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ

نئی جلد پسید اکرئے گا اور پھر درونک عذاب دے گا اسے
دوزخیوں کا پیپ پلایا جائے گا اس کے لئے ویل کا عذاب
ہوگا۔

(المناقب لابن المغازلی ۶۶ حدیث ۹۵)

۲۴ - وعن ابن عمر سئل رجل عن دم البعوضة
فقال من انت قال من اهل العراق قال انظروا
الى هذا يسئلني عن دم البعوضة وقد قتلوا
ابن رسول الله وقد سمعته يقول هماريحانتا
من الدنيا (رواه ابو نعیم)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے
ان سے حالت احرام میں مچھر کے خون کا حکم پوچھا تو
انہوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو۔ جواب دیا میں اہل عراق میں
سے ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اس شخص کی طرف دیکھو
یہ مجھ سے مچھر کے خون کا حکم دریافت کرتا ہے حالانکہ انہوں
نے فرزند رسول کو قتل کیا میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو فرماتے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ
یہ دونوں دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔

سنن الترمذی ۵ / ۳۲۲ حدیث ۳۸۵۹

فی المصدر فی الدنيا والاخرة

(بخاری الصحیح ۵ / ۲۳۴ کتاب الادب حدیث ۵۶۴۸)

نسائی السنن الکبریٰ ۵ / ۵۰ حدیث ۸۵۳۰

۲۵ - وعن شهر ابن حوشب قال سمعت
امر سلمة حين جاء نعي الحسين لعنت اهل
العراق وقالت قتلوه قتلهم الله عز وجل
ما عزوه وذلوه لعنهم الله روى يا سناد
مسلسل الى ابى نعیم -

حضرت شهر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب شہادت حسین علیہ السلام کی خبر
ملی تو اہل کوفہ پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ اہل نے اسے
قتل کیا اللہ انہیں قتل کرائے اس کی عزت نہ کی اور انہیں رسوا
کیا اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو اسے ابو نعیم نے اپنے مسلسل
اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے -

(مجمع الزوائد ۹ / ۱۹۴)

امام حسن حسین دی شان و ساں نبی پاک دی نیں تصویر دونویں
جس نور تول نبی دا نور بنیا اسے نور دی نیں تصویر دونویں
جان دے کے بطل نفوس زیر کیا کفر واسطے نیں شمشیر دونویں
شانی پیراں دے پیر دے پیر دونویں، ساری امت دے دین سکیر دونویں

فضائل خدیجہ فاطمہ علیہما السلام

مودت سیر دہم

۱ - عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت
كان رسول الله لا يكاد ان يخرج من البيت حتى يذكر
خديجة فيحسن عليها الثناء فذكرها يوماً
فادركتني الغيرة فقلت هل كانت الا عجوزاً قد ابد
لئ الله خيراً منها فغضب النبي حتى رايت مقدم
شعره يهتز من الغضب فقال لا والله ما اخلفني الله
خيراً منها امنت بي اذا كفر الناس وصدقني اذا كذبني
الناس وواستني بمالها اذا حرمني الناس ورزقني الله
باولادها دون النساء من غيرها قالت عائشة فقلت
في نفسي لا اذكرها بسوء ابداً -

حضرت شعبی مسروق سے اور وہ حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے
کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو حضرت
خدیجہ رضی عنہا کا ذکر کرتے ان کی خوب تعریف کرتے ایک دن آپ نے
ان کا اس طرح ذکر کیا تو مجھے عزت آتی میں نے کہا وہ تو ایک بوڑھی عورت
تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی یہ سن کر
آپ نہایت غضبناک ہوئے یہاں تک کہ غصے سے آپ کے بال ہلنے
لگے اور ارشاد فرمایا نہیں خدا کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر زوجہ نہیں
دی وہ مجھ پر ایمان لے آئی جب کہ لوگ جھٹلاتے میری تصدیق
کی جب لوگ تکذیب کرتے اپنے مال سے میری مدد کی جب کہ لوگ

مجھے محروم رکھتے اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ارشاداتِ سنِ مکرمین نے دل میں کہا کہ آئندہ ان کا ذکر کبھی بھی برائی کے ساتھ نہیں کروں گی۔

(یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ یوں بھی ہے)

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجۃ اشنی علیہا فاحسن الشاء قالت فخرت یوما فقلت ما اکثر ما تذکرہا صراء الشرق قد ابدلت اللہ بہا خیرہا قال ما ابدلنہی اللہ خیرا منہا۔ قد امت بی اذ کفر بی الناس، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، وواستنی بہا لہا اذ ہرمتی

الناس وارزقنی اللہ ولہا اذ ہرمتی اولاد النساء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آگئی اور میں نے کہا کہ آپ سُرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتوں کو اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جب کہ دوسری

عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا ۔

(المسند احمد ۱۱۷/۶ ، حدیث ۲۴۹۰۸ ، طبرانی المعجم الکبیر ۱۳/۲۳ ، حدیث ۲۲)

ابن جوزی صفوة الصفوة ۸/۲ ، عسقلانی فی الاصابة ۴۰۴/۷

الذہبی فی سیر اعلام النبلاء ۲/۱۱۷ ، مجمع الزوائد ۹/۲۲۴)

۲ - وعن مهاجر بن میمون عن فاطمة علیہ السلام
قالت قلت لابی صلی اللہ علیہ والہ وسلم این امنأخذی حبة
قال ببیت من قصب لا لغوب فیہ ولا نصب بین مریم
واسیة امرأة فرعون قلت امن هذا القصب قال لا
بل القصب المنظوم بالذر والیاقوت

مہاجر بن میمون حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے
ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے
عرض کیا کہ ہماری والدہ جنت میں کہاں ہیں۔ فرمایا کہ وہ (جاؤ)
کے ایک گھر میں ہیں تمہکان ہے۔ نہ سختی وہ حضرت مریم
اور آسیہ کے گھروں کے درمیان ہے۔ یہ سن کر میں نے
عرض کی کہ یہ گھر اسی دنیا کے (جاؤ) کے بنے ہوئے ہیں۔
فرمایا نہیں بلکہ موتی اور یاقوت پر رُئے ہوئے ہیں

(مجمع الزوائد ۹/۲۲۳)

۳ - وعن انس قال قال رسول الله خير نساء العالمين اربع
 مريم بنت عمران واسية بنت مزاحم وخديجة بنت
 خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل
 چار عورتیں ہیں حضرت مریم علیہا السلام ، حضرت آسیہ علیہا السلام ،
 حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ، حضرت فاطمہ عابدہ زکیہ سلام اللہ علیہا ۔
 (المناقب للنخوارزمی ۳۶۳ حدیث ۴۰۹ المستدرک ۳/ ۱۰۷)

۴ - وعن عباد بن سعد قال قال رسول الله
 فضلت خديجة على نساء النبي كما فضلت مريم
 على نساء العالمين -
 حضرت عباد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ کو میری بیویوں میں
 ایسی فضیلت ہے جیسی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دنیا کی عورتوں پر
 اس حدیث سے ملتی جلتی ایک حدیث ہشام سے بھی مروی ہے ،
 اخرجہ البخاری الصحيح کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ وفضلہا
 ۳/ ۱۳۸۸ حدیث ۳۶۰۴ مسلم فی الصحيح کتاب فضائل الصحابة
 باب فضائل خدیجہ ام المؤمنین ۴/ ۱۸۸۶ حدیث ۲۴۲۰ ابن ابی شیبہ
 فی المصنف ۶/ ۳۹۰ / ۳۲۲۸۹)

۵۔ وعن الامام جعفر الصادق عن ابائه عليهم السلام
عن علي قال نزل جبرئيل فقال علي رسول الله ان رباً يقرُّ
عليك السلام ويقول اني قد حرمت النار على صلب
انزالك وبطن حملك وحجر كفلك

حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جبرائیل جناب رسول مقبول ﷺ
کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ اور
کہتا ہے کہ میں نے جہنم حرام کر دیا تم کو اٹھانے والے صلب ٹھہرنے والی رحم
اور اٹھانے والی گود پر۔

لا یوجد فی المصنوع یا رسول اللہ

۶۔ وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله من
اراد التوكل فليحب اهلبيتي ومن اراد ان ينجو من
عذاب القبر فليحب اهلبيتي ومن اراد الحكمة فليحب
اهلبيتي ومن اراد دخول الجنة بغير حساب فليحب اهلبيتي
فوالله ما احبهم احد الا ربح في الدنيا وفي الآخرة۔

حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توکل کرنا چاہے اسے میرے اہلبیت
سے دوستی کرنی چاہیے جو قبر کے عذاب سے نجات کا خواہاں ہو جو
حکمت و دانائی کا مست لاشی ہو اور جو بلا حساب کتاب جنت میں جانا
چاہتا ہو اسے میرے اہلبیت سے دوستی کرنی چاہیے قسم بخدا جس
نے بھی ان سے دوستی کی اس نے دنیا و آخرت میں نفع اٹھایا۔

رہبر سید خضر حسین چشتی آل رسول ۳۹ پر امام نظام الدین حسن بن محمد خراسانی جو امام نیشاپوری کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی تفسیر میں مولائے علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے توسل کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں۔
 وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَاتَّوَسَّلَ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ
 الْكَرِيمِ ثُمَّ بَنِيهِ الْقُرَشِيِّ الْأَبْطَحِيِّ وَوَلِيهِ الْمُعْظَمِ الْعَلِيِّ
 بے شک میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے اور میں
 وسیلہ پکڑتا ہوں اس کی طرف اس کی ذات کریم سے پھر اس کے
 قریشی بنی بطحا کے رہنے والا پیغمبر اور اس کے معظم ولی علی سے
 (تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان علی ہاشم جامع البیان)

، وعن زاذان عن سلمان قال قال رسول الله
 يا سلمان من احب فاطمة بنتي فهو في الجنة معي ومن
 ابغضا فهو في النار يا سلمان حب فاطمة ينفع في مائة
 من المواطن اليسر ذالك المواطن الموت والقبر والميزان
 والصرار والمحاسبة فمن رضيت عنه بنتي فاطمة
 رضيت عنه ومن رضيت عنه رضى الله تعالى عنه -
 ومن غضبت بنتي فاطمة عليه غضبت عليه ومن
 غضبت عليه غضب الله عليه - يا سلمان ويل لمن
 يظلمها ويظلم بعلمها عليا وويل لمن يظلم ذريتهما
 وشيعتهما

حضرت زاذان حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان

جو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت رکھے وہ بہشت میں میرے
 ہمراہ ہوگا اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے وہ جہنم میں جائے گا۔
 اے سلمان فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دوستی تو جگہ نفع دیتی ہے ان میں
 آسان ترین موت، قبر بہترین، پل صراط اور حساب کتاب کے مراحل ہیں
 جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہا خوش ہو میں اس سے خوش ہوں گا۔
 خدا بھی اس سے خوش ہوگا۔ جس سے فاطمہ ناراض ہو میں
 اس سے ناراض ہوں گا۔ اور خدا بھی اس سے ناراض ہوگا۔
 اے سلمان فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کے شوہر علی کرم اللہ وجہہ الکریم
 ان کی اولاد اور دوستداروں پر جو ظلم کرے گا ان کے لئے
 ہلاکت و بربادی ہے۔

(مستقل الحین للنخوارزمی ۵۹ حدیث ۱۲۳)

۸ - وعن المقداد بن الاسود قال قال رسول الله
 معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل محمد
 جواز على الصراط والولاية لآل محمد امان من
 العذاب

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کی معرفت جہنم سے برأت
 ان کی دوستی پل صراط پار کرنے کا پروانہ ان کی حمایت عذاب الہی سے
 امان ہے۔

(مستقل الحین للنخوارزمی ۶۰ فرائد السمطين ۶۰/۲ حدیث ۳۹۱)

۹ - وعن جریر ابن عبد اللہ البجلی قال قال رسول اللہ
 من مات علی حب آل محمد مات شهیداً ومن مات
 علی حب آل محمد مات مغفوراً له الا ومن مات
 علی حب آل محمد فیفتح فی قبره بابان من الجنة
 الا ومن مات علی حب آل محمد بشره ملائک الموت
 بالجنة ثم منکر ونکیر الا ومن مات علی حب
 آل محمد یزف الی الجنة کما تزف العروس الی
 بیت زوجها الا ومن مات علی حب آل محمد
 مات تائباً الا ومن مات علی حب آل محمد جعل
 اللہ زوار قبره ملائکة الرحمة الا ومن مات علی
 حب آل محمد مات علی السنة والجماعة الا ومن
 مات علی حب آل محمد مات مؤمناً مستکمل
 الايمان الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم
 القیمة مکتوب بین عینیه الأس من رحمة اللہ
 الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یثمة راحة
 الجنة الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافراً
 حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا (جو شخص آل محمد کی
 محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی)۔ (خبردار جو شخص
 آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے
 گناہ بخش دیئے جائیں گے) ،

(خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے

دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اسے پہلے ملک الموت اور پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں ۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا ۔ جیسے دلہن کو اعزاز کے ساتھ دولہا کے گھر پہنچایا جاتا ہے ۔

خبردار جو آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا ۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے ۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا ۔

خبردار جو شخص آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ کامل الایمان مرے گا ۔

خبردار جو شخص آل کے بغض پر مرا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ الفاظ لکھے ہوں گے کہ

یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید (یا کوس) ہے ۔

خبردار جو شخص بغض آل محمد پر مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا ۔

خبردار جو شخص آل محمد کے بغض پر مرا وہ کافر مرا

(شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن عربی جلد ثانی

صفحہ نمبر ۴۳۳ مطبوعہ بیروت)

مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۱۶۵، ۱۶۶

علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان جلد ۸ صفحہ ۳۱۲ ،

علامہ شیخ محمد شری اپنی تفسیر کشف میں -
 علامہ شیخ مومن بن حسن مومن شیبانی نور الابصار صفحہ ۱۱۴، ۱۱۵ مطبوعہ مصر
 امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے اشرف الموبد الال محمد صفحہ ۴۲ مطبوعہ مصر
 فرید اسپین ۲۵۶/۱ حدیث ۵۲۵ -

۱۰ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن
 انكم اصحابي وعلى ابن ابي طالب اخي مني وانا من علي
 فهو باب علمي وصيبي وهو وفاطمة والحسن والحسين
 هم خير اهل الارض عنصراً وشرقاً وكرماً
 حضرت عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ارشاد فرمایا
 کہ اے عبد الرحمن تم میرے صحابی ہو علی میرا بھائی ہے وہ مجھ سے میں اس
 سے ہوں وہ میرے علم کا دروازہ اور وصی ہے۔ وہ فاطمہ حسن حسین وجود
 عزت اور کرامت میں اہل عالم سے افضل ہیں۔
 (مقتل الحسین للنخوارزمی ۴۰)

۱۱ - وعن موسى بن علي القرشي عن قنبر عن
 بلال بن حمادة قال طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم
 ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمر فقام
 عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله ما هذا النور
 فقال بشارة اتيتني من ربي في اخي وابن عمي علي و

بنتی فاطمة انت الله زوج علیاً فاطمة وامر
 رضوان خازن الجنان فیهن بالزینة والنور فہن شجرة
 طوبی فحملت دقاقا یعنی صکا کا بعدد محبی اہلبیتی
 وانشاء من تحتها ملء کة من نور و دفع الی کل
 ملک صکاً فاذا استوت القيامة باہلها نادى الملء کة
 الی الخلائق فلیبقى محب الیہ صکاً فیہ فکاک
 من النار روفی نسخة اخری الا وقعت فی یدہ ورقہ
 فیہا صاک وفيہ نجات من النار ، فاحی وابن عمی و
 بنتی فکاک رقاب الرجال والنساء من امتی من النار
 حضرت موسیٰ بن علی قریشی قبر رضی اللہ عنہ سے وہ بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت آپ کا چہرہ بدرکال کی طرح چمک
 رہا تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر یہ نور کیسا فرمایا میرے پاس ابن عم علی اور
 بیٹی فاطمہ سے متعلق ایک بشارت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے
 فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا اور خازن جنت کو جنت سبحانے کا
 حکم دیا درخت طوبی نے حرکت کی مجبین اہلیت کے برابر پروانوں سے
 وہ بار آور ہوا اس کے نیچے نورانی فرشتے پیدا کئے ہر ایک کو ایک
 پروانہ دیا روز قیامت وہ مخلوق خدا کو پکاریں گے پس ہر محب
 اہل بیت کو ایک ایک پروانہ مل جائے گا جس میں دوزخ سے نجات
 کا حکم درج ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں یوں ہے ۔
 ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ورق گرے گا جس میں جہنم سے
 نجات کا پروانہ ہوگا میرا چچرا بھائی اور بیٹی امت کے مرد و زن کو جہنم
 سے نجات دینے والے ہیں ۔ یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ کتابوں
 میں موجود ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں ۔

جناب ابو بکر الخوارزمی نے بیان کیا ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 باہر تشریف لائے وَوَجْهَهُ مُشْرِقٌ كَذَاكِرَةِ الْقَمَرِ ۔
 آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک رہا تھا ۔ حضرت عبدالرحمن
 بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس
 شادمانی کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے
 رب کی طرف سے اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے اور میری بیٹی سے متعلق
 بشارت ملی ہے ۔

بَاقُ اللَّهِ زَوْجٌ عَلِيًّا مَرْثَى فَاطِمَةَ

کہ اللہ تعالیٰ نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے ۔ اور خازنِ جنت
 رضوان کو حکم دیا ہے تو اس نے شعبِ طوبیٰ کو ہلایا تو وہ میرے
 اہل بیت کے محبوبوں کی تعداد کے برابر رقعوں (یعنی پتوں)
 سے بار آور ہوا جو (بخشش) کی دستاویزوں کی صورت میں تھے
 اور ان کے نیچے اس نے فوری فرشتے پیدا کیے ۔ اور ہر
 فرشتے کو ایک ایک رقعہ دیا ۔ جب لوگوں پر قیامت قائم ہو گئی تو
 وہ فرشتے میدانِ محشر میں جمع ہونی والی مخلوق میں آوازیں دیتے ہوئے
 پھیل جائیں گے ۔ اور اہل بیت کے نیاز مندوں میں دوزخ سے
 رہائی کے حکم نامے تقسیم کریں گے ۔

فَلَا يَبْقَىٰ مُجِبٌّ إِلَّا لِمَنْ أَلْبَسَتْ إِلَّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ سَكَ - فَصَارَ
أَخِيَّ وَابْنُ عَمِّي وَابْنَتِي فَكَانَ رِقَابَ رَجُلٍ وَنِسَاءٍ
مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ -

تو اہل بیت کا کوئی ایسا محبوب باقی نہ رہے گا۔ جسے وہ دستاویز
نہ ملے پس میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا اور میری بیٹی میری
اُمت کے مردوں اور عورتوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے والے
بن جائیں گے۔

(بحوالہ آل رسول سید خضر حسین چشتی صفحہ ۳۵۲ ،
الصواعق المحرقة صفحہ ۱۷۳ مطبوعہ ملتان)

۱۲ - وعن ابن عباس قال قال رسول الله لعلي يا علي
ان الله تبارك وتعالى زوجك فاطمة وجعل صداقتها
الارض فمن مشى عليها مبغضالك مشى حراماً -
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا اے علی اللہ تعالیٰ
نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تمہارا نکاح کیا اور اس کا مہر تمام زمین کو مقرر
فرمایا۔ پس جو کوئی زمین پر چلے در آنحالیکہ وہ تم سے بغض رکھتا ہو
تو اس کا چلنا حرام ہے۔

(المناقب للبخاری ۳۲۸ حدیث ۳۴۵ (فرائد السطین ۱/۹۴ حدیث ۶۴۷)

۱۳ - وعن ابی نعیم الحافظ عن شیوخہ عن انس
قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اوتی شیئاً
يقول اذهبوا به فلانہ فانہا كانت صدیقة خدیجۃ
اذہبوا به الی فلانہ فانہا تحب خدیجۃ

حافظ ابی نعیم نے اپنے شیوخ کے ذریعے حضرت انس
رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
جب کو چیز آتی تھی تو فرماتے یہ چیز فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کہ
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سچی دوست تھی یہ چیز فلاں عورت
کو پہنچا دو کہ وہ خدیجہ کو دوست رکھتی ہے۔
(مقتل الحسین للخوارزمی ۳۱)

۱۴ - وعن شیوخہ عن عمار بن یاسر قال قال رسول اللہ
فَضَّلْتُ خَدِيجَةَ عَلَی نِسَاءِ اُمَّتِیْ کَمَا فَضَّلْتُ مَرْیَمَ
عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ -

حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہؓ کو میری امت کی عورتوں
پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح حضرت مریم کو تمام عالم
کی عورتوں پر

(مجمع الزوائد ۹/۲۲۳)

۱۵۔ وعن حذیفۃ قال قال رسول اللہ نزل ملک
من السماء فاستاذن اللہ تعالیٰ ان یسلم علی ولم یزل
قبلها فبشرنی عن اللہ عز وجل ان فاطمة سیدۃ
نساء اهل الجنة

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک
فرشتہ اترا اور اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی وہ
کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب
سے بشارت دی کہ فاطمہ عابدہ زکیہ سلام اللہ علیہا - جنتی عورتوں
کی سردار ہے۔

(مقتل الحسین للخوارزمی ۵۵)

فضائل النبي وأهل بيته وصال النبي وقاطمه سلام الله

موودت چهار دهم

عن امير المؤمنين علي في حديث طويل قال
 اذا كان يوم القيامة فاول من يقوم من قبره
 الناطق الصادق الناصح المشفق محمد المصطفى
 صلى الله عليه وآله وسلم فيأتيه جبرئيل بالبراق
 وميكائيل بالتاج واسرافيل بالقصب ورضوان بحلتي
 ثم ينادي جبرئيل اين قبر محمد
 فتقول الارض حملتني الرياح مع الجبال فدكتني
 دكة واحدة فلا ادرى اين قبر محمد فيرتفع
 عن قبره عمود من نور الى عنان السماء فيبكي
 جبرئيل بكاء شديدا فيقول له ميكائيل
 وما يبكيك فيقول له او تمنعني من البكاء
 وهذا محمد يقوم من قبره ويسألني عن امته
 وانا لا ادرى اين امته قال ثم ينصدع القبر فاذا محمد
 قاعدا وينقض التراب عن راسه ولحيته ثم يلتفت
 يمينا وشمالا فلا يرى من العمران شيئا فيقول
 يا جبرئيل بشرني فيقول ابشرك بالبراق السباق
 الطائر في الافاق فيقول بشرني فيقول ابشرك
 بالتاج فيقول بشرني فيقول ابشرك بالقصب والحلتي
 فيقول بشرني بامتي لعلك خلفتهم بين اطباق

النيران ما رايتهم وانهم بعد هم في لحد
الى اخر الحديث - اختصرنا الخبر الطويل بذالك

حتى تعلم شفقتك اليك بمحبته واتباع سنته
حضرت امير المؤمنين علي كرم الله وجهه الكرم سے طویل حدیث منقول ہے
آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ناطق صادق ،

ناصح شفیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرقہ منور
سے زندہ اٹھیں گے پھر جبریل براق میکائیل تاج اسرافیل کتابی جاتے

(یعنی لباس) اور اسرافیل دو حجتے (یعنی جبے) لائیں گے۔ جبریل
پکاریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقہ منور کہاں ہے

اسی وقت آپ کی مرقہ منور سے نور کا ایک ستون آسمان کی بلندیوں
میں ظاہر ہو گا یہ دیکھ کر جبریل شدت سے رونے لگیں گے ،

میکائیل پوچھیں گے کہ تم کیوں روتے ہو جواب دیا جائے گا کہ تم
مجھے رونے سے روکتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مرقہ منور سے اٹھیں گے اور اپنی امت کی بابت مجھ سے دریافت
کریں گے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی امت کہاں ہے ۔

اتنے میں آنحضرت کی مرقہ منور کھل جائے گی ۔ یکایک حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جائیں گے ۔ اپنے سر

اور داڑھی مبارک سے مٹی جھاڑ میں گے پھر دائیں اور بائیں
جانب دیکھیں گے کسی قسم کی آبادی آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ

جبریل سے پوچھیں گے کہ اے جبریل مجھے کوئی خوشخبری دو
وہ عرض کریں گے کہ میں آپ کو براق کی بشارت دیتا ہوں ۔ جو

اطراف عالم میں اڑنے والا اور سب پر سبقت لے جانے

والا ہے پھر فرمائیں گے کوئی اور بشارت دو عرض کریں گے کہ
آپ کو تاج مبارک ہو فرمائیں گے کوئی اور بشارت دو عرض
کریں گے کہ آپ کو جا کتنا اور بہشتی محلے کی بشارت دیتا ہوں
ہوں فرمائیں گے میری امت کی خوشخبری سناؤ شاید تم نے انہیں
دوزخ کے طبقوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے یا جہنم کے کناروں پر
شاید دوزخ کے شعلوں کے درمیان عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے انہیں نہیں دیکھا شاید وہ اپنی قبروں میں
ہیں۔

ہم نے اس طویل حدیث کو اس مطلب پر ختم کر دیا ہے کہ
مہیں معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت
رکھنے اور ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کے سبب آپ
اپنی امت پر کس قدر مہربان اور شفیق ہیں کہ مرقد منور سے
اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی امت کا خیال فرماتے ہیں۔

۲ = وعن زید بن اسلم عن عمر ابن الخطاب
قال قال رسول الله لما اقتراف ادم الخطيئة قال
يا رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لي فقال
الله يا ادم كيف عرفت محمد اولم اخلقه قال
يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من
روحك رفعت راسي فرايت على قوائم العرش
مكتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله
فعلمت لم تصف الى اسمك الا احب الخلق

إليك فقال الله تعالى صدقت يا آدم إنه لأحب
الخلق إليّ وإذا سئلتني بحقه قد غفرت
لك ولولاه لما خلقتك قال أبو عبد الله الحافظ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه
الشيخان -

حضرت زید بن اسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم نے اپنے
خطا کا اعتراف کیا اور یوں دعا کی کہ پروردگار! میں محمد کا واسطہ دے کر
تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے! اس وقت اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! تم نے محمد کو کیسے پہچانا جب کہ ابھی میں
نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ عرض کی جب تو نے اپنے ہاتھ سے
مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکا دی میں نے اپنا
سر اوپر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لکھا ہوا دیکھا اس وقت میں نے جان لیا کہ جس شخص کے نام کو اپنے
نام سے ملا کر تو نے لکھا ہے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ تیرا
محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم نے سچ کہا وہ مخلوق
میں میرا محبوب ترین بندہ ہے چونکہ تم نے اس کا واسطہ
دے کر سوال کیا میں نے تجھے بخش دیا اگر وہ نہ ہوتا تو تجھے
پیدا نہ کرتا -

(مقتل الحسین للخوارزمی ۱۶ - ۱۵)

یہ حدیث تھوڑے فرق کے ساتھ اس طرح ہے -
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے (صورۃ) خطا کی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کیا میں محمد کے حق (وسیلہ) سے سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تب اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی اے آدم وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر میں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں آخری امت ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تم کو پیدا نہ کرتا

(المعجم الصغير ج ۲ ص ۱۸۲ رقم ۹۹۲)

(المعجم الاوسط ج ۷ ص ۲۵۹ رقم ۶۴۹۸)

شرف المصطفیٰ ج ۱ ص ۱۶۵ ، المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵

وطبقة أخرى ج ۳ ص ۵۱۷ رقم ۴۲۸۶

دلائل النبوة للبيهقي ج ۵ ص ۴۸۹ ، الغصائل الكبرى ج ۱ ص ۱۲

۳) بشرح اتعاف اسئل لفاطمة من المناقب والفضائل

امام زين الدين محمد بن عبد الروف المناذري شارح عمدة قاری

ظہور احمد فضی ۳۳۳ ، ۳۳۴

۳ = وعن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس
 قال قال رسول الله اوحى الله تعالى الى عيسى يا عيسى
 امن بمحمد وأمر من ادركه من امتك
 ان يومنوا به فلولاً محمد ما خلقت ادم ولولا
 محمد ما خلقت الجنة ولا النار، ولقد خلقت
 العرش على الماء فاضرب فكتب عليه لا اله الا الله
 م ح یعنی نصف اسم محمد فسكن قال ابو عبد الله الحافظ
 هذا حديث صحيح الاسناد ايضا ولولم يخرج
 الشيخان

عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ
 (علیہ السلام) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں
 اور اپنی امت کو بھی حکم دیں کہ جو ان کو پائے ایمان لائے
 اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو میں آدم علیہ السلام کو
 پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت
 اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو
 پانی پر پیدا کیا تو وہ تمھرے لئے لگا جب اس پر لا اله الا الله (م ح)
 یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا حصہ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا۔
 ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اگرچہ
 شیخین نے اسے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا۔
 (مقتل الحسین للخوازمی ۱۵)

فائدہ برناباس کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بیان ہوا ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش بریں پر لکھا تھا کیونکہ آفت علیہ السلام جیسی جامع کمالات ہستی نہ پہلے پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔

(برناباس کی انجیل ۷۳ - ۷۲ - رقم ۳۹)

۴ = وعن ابی عبد اللہ الحافظ عن شیوخہ عن ابی الخیر البحتری قال رأیت امیر المومنین علیا علیہ السلام علی منبر الکوفہ وعلیہ مدرعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتمدًا بسیف رسول اللہ متعممًا بعمامة رسول اللہ وفی اصبعہ خاتم رسول اللہ ففقد علی المنبر وكشف بطنہ فقال سلونی قبل ان تفقدونی فان بین الجوانح منی علمًا جمًا و اشار الی بطنہ وقال هذا سقط العلم هذا العاب رسول اللہ فی فمی ما زقنی رسول اللہ زقازقا من غیر وحی اوحی اللہ انی واللہ لو ثبتت لی الوسادة فجلست علیہا لافتیت لاهل التورات بتوراتہم ولا هل الانجیل بانجیلہم حتیٰ ینطق التوراة والانجیل فیقول صدق علیٰ قداکما کہ بما انزل فی وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون

حضرت ابو عبد اللہ الحافظ اپنے شیوخ سے وہ ابوالخیر بخیری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم

کو کوفہ کے منبر پر دیکھا اس وقت آپ کے جسم پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زرہ سر پر عمامہ انگلیوں میں انگوٹھی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پر ٹیک لگا رکھا تھا پھر آپ منبر پر بیٹھ گئے کمر کھولا اور فرمایا کہ اے لوگو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ میرے سینے میں علم کثیر موجود ہے آپ نے اپنے سینے کی طرف ارشاد کیا اور فرمایا کہ یہ علم محل وقوع ہے یہ لعاب رسول خدا ہے جسے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر کسی وحی کے بواسطہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہنچایا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میرے لیے مسند بچھا کر مجھے اس پر بٹھایا جائے تو میں اہل تورات کو تورات کے مطابق اور اہل انجیل کو انجیل کے موافق فتویٰ دوں گا حتیٰ کہ تورات اور انجیل پکار اٹھیں گی کہ علی نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اتارا اس کے مطابق دیا تم انہیں پڑھتے ہو تم غور کیوں نہیں کرتے۔

(المنقب للنخوارزمی ۹۱ حدیث ۱۸۵)

فرائد اسمطین ۱/ ۳۵۰ حدیث ۲۶۳

۵ = وعن ابن عباس قال ان الحسن والحسين كانا كتبنا فقال الحسن والحسين خطي احسن من خطي فقالا لفاطمة احكمي بيننا من احسن منا خطاً فكرهت فالحمة ان توذی احدہما بتفصیل احدہما علی الآخر فقالت منہما سئلاً اباً کما علیاً فسئلاه عن ذالک فقال علی ؑ

سُئِلَ جَدُّ كَمَا رَسُولُ اللَّهِ فُسِّلَ لَهُ فَقَالَ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا حَتَّى أَسْأَلَ
 جِبْرِئِيلَ فَلَمَّا جَاءَ جِبْرِئِيلَ قَالَ لَا أَحْكُمُ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا
 مِيكَائِيلُ فَقَالَ لَا أَحْكُمُ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا إِسْرَافِيلُ فَقَالَ
 لَا أَحْكُمُ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ
 اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا أَحْكُمُ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ أَقْهَمَا فَاطِمَةُ تَحْكُمُ
 بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ أَحْكُمُ بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ لَهَا قِلَادَةٌ مِنْ
 الْجَوَاهِرِ فَقَالَتْ لَهُمَا انْشَرِجُوا هَذِهِ الْقِلَادَةَ فَمَنْ أَخَذَ
 مِنْهُمَا أَكْثَرَ فَخُطِّهِ أَحْسَنَ فَنَشَرَتْهَا وَكَانَ جِبْرِئِيلُ وَاقِفًا
 عِنْدَ قَائِمَةِ الْعَرْشِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ وَ
 انْصِفِ الْجَوَاهِرَ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَا يَتَذَيَّ أَحَدُهُمَا فَعَلَّ
 ذَلِكَ احْتِرَامًا وَتَعْظِيمًا لَهَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ حضرت امام حسن و حسین نے
 بچپن میں ایک دفعہ بطور مشق کچھ لکھا پھر ایک نے کہا کہ تم سے میرا خط
 اچھا ہے دوسرے نے کہا میرا اچھا ہے دونوں نے حضرت فاطمہ
 کے پاس جا کر انہیں فیصلہ دینے کو کہا کہ کس کا خط اچھا ہے ؟
 حضرت فاطمہ کو یہ ناگوار گھڑا کہ اگر ایک کو بہتر بتائے تو دوسرے
 کو اذیت پہنچے گی۔ اس لیے کہا کہ اپنے والد کے پاس لے
 جائیں اور ان سے فیصلہ کرائیں جب علی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ
 اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں جب انہوں نے
 آنحضرت سے پوچھا تو فرمایا کہ میں جب تک جبریل سے نہ پوچھوں
 جواب نہیں دوں گا جب جبریل آیا ان سے پوچھا تو کہا کہ میں فیصلہ
 نہیں دوں گا اس کا فیصلہ میکائیل دے گا میکائیل نے کہا کہ

میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں دوں گا بلکہ اسرافیل دے گا
 انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھوں میں ان دونوں کے
 درمیان فیصلہ نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کے درمیان
 فیصلہ نہیں دوں گا بلکہ ان کی ماں فاطمہ ہی فیصلہ دے گی پس فاطمہ نے
 کہا میں فیصلہ دیتی ہوں ان کے پاس جواہرات کی ایک بار تھی کہا کہ
 میں اس بار کے جواہرات کو بکھیر دیتی ہوں جو زیادہ اٹھائے اس کا
 خط اچھا ہے یہ کہہ کر جواہرات کو بکھیر دیا اس وقت جبریل عرش الہی
 کے پائے کے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر اترو اور
 جواہرات کو ان کے درمیان آدھا آدھا کر دو تاکہ ان میں سے
 کوئی رنجیدہ نہ ہو پس جبریل نے ان کی عزت و احترام کے
 ساتھ ایسا ہی کر دیا

۴۱ وعن جماعة من الصحابة قالوا ان امير المؤمنين
 علياً عليه السلام لما اراد غسل رسول الله بعد وفاته استدعى
 الفضل ابن عباس ان يناوله الماء بعد ان عصب عينيه
 ثم فرغ قميصه من جيبه حتى بلغ به الى سرتة فلما فرغ
 من تجهيزه تقدم فصلّى عليه وحده ولم يشاركه احدٌ معه
 في الصلوة عليه وكان جماعة من الصحابة يخوضون
 فيمن يومهم في الصلوة عليه واين يدفن فخرج اليهم امير
 المؤمنين فقال رسول الله اماناً حياً وميتاً قيدخلون اليه
 فوجاً فوجاً منهم فيصلّون بغير امام وينصرفون وقال ان الله
 تعالى لم يقبض نبياً في مكان الا فدفنونه فيه والى ادفنه

فی حجرته الّتی قبض فیہ فرضی القوم بذالک فلما فرغوا
 من الصلوة قال امیر المومنین یرید بن سهل احقر
 لرسول اللہ لحداً مثل اهل المدينة فحفله لحداً وکان
 یحفر لاهل المدينة ثم دخل فیہ امیر المومنین علی و
 العباس والفضل بن عباس لیتولوا دفنه فوضعه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 علی علیہ السلام بیدیه وکشف وجهه ووضع اللبن واهال
 التراب وکان یوم الثامن والعشرون من صفر وقیل
 اشاع عشر من ربيع الاول مات یوم الاثنين ودفن
 یوم الاربعاء ثم رجعت فاطمة الی بیتها واجتہدت الیہا
 النساء فقالت فاطمة انا لله وانا الیہ راجعون - انقطع عنا
 خبر السماء ثم قالت فی مرثیة النبی : اشعار
 اغبر افاق البلاد وکورت + شمس النهار واطلم
 العصران + والارض من بعد النبی خریبه + اسفا علیہ
 کثیرة الرجفان + فلیبکک شرق البلاد وغربها ولیبکک
 مصر وکل یمان -

صحابہ کی ایک جماعت روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی وفات کے بعد حضرت علی نے آپ کو غسل دینے کا ادا دہ کیا تو فضل بن
 عباس سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پانی ڈالتے جائیں پھر آپ نے
 آنحضرت کی قمیض کو گریبان کی جانب سے ناف تک نیچے اتارا جب
 تجہیز و تکفین سے فارغ ہوا آگے بڑھا اور اکیلے ہی آنحضرت کی نماز جنازہ
 پڑھی کوئی بھی نماز میں آپ کا سا بھی نہ تھا صحابہ کی ایک جماعت اس میں
 غور کر رہی تھی کہ کون نماز جنازہ کی امامت کرے ؟ اور آپ کو کہاں دفن

کرے؛ پس امیر المؤمنین باہر نکلے اور فرمایا کہ رسول اللہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں ہمارے امام ہیں پس صحابہ میں سے تھوڑے تھوڑے آدمی محبسے میں داخل ہوتے اور بغیر کسی امام کے جنازہ پڑھ کر باہر آتے نیز آپ نے فرمایا کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں اس لیے میں آنحضرت کو اسی حجرے میں دفن کروں گا جس میں آپ نے وفات پائی ہے سب نے اسی بات کو پسند کیا۔

جب نماز جنازہ سے فارغ ہوا تو حضرت علی نے برید بن ہاشم کو جو اہل مدینہ کا گورکن تھا، فرمایا کہ وہ آنحضرت کے لیے لحد تیار کرے لحد تیار ہونے کے بعد علی، عباس اور فضل بن عباس لحد میں اتر گئے تاکہ آپ کو دفن کرے پس علی نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں رکھا منہ کھولا اور لحد پر اینٹیں جوڑ دیں اور اوپر مٹی ڈال دی یہ ماہ صفر کی اٹھائیسویں تھی کہتے ہیں بارہ ربیع الاول کی تاریخ تھی پیر کا دن تھا بدھ کے دن دفن ہوئے۔

بعد ازاں حضرت فاطمہ اپنے گھر واپس آئیں اور مدینہ کی عورتیں تعزیت کے لیے وہاں جمع ہو گئیں تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اب آسمان کی خبریں ہم سے منقطع ہو گئیں پھر آنحضرت کے مرثیے میں یہ اشعار پڑھیں۔

* اطراف عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں غبار آلود، دن کا آفتاب سیاہ اور زمانہ تاریک ہو گیا۔

* نبی کے بعد زمین ویران ہو گئی ہے اور کثرتِ تاسف سے اسے زلزلے کے جھکے لگ رہے ہیں۔

* پس دنیا کے مشرقی و مغربی ممالک اور مصر و یمن کو آپ پر گریہ کرنی چاہیے۔

ع = عن ابن عباس لما جاء فاطمة الاجل لم تحم ولم تصدع ولكن اخذت بيد الحسن والحسين فذهبت بهما الى قبر رسول الله فصلت بين القبر والمنبر كعتين ثم وضعتها الى صدرها والزمتهما وقالت يا اولادى اجلسا عند ابيكما ساعة وامير المؤمنين يصلى فى المسجد ثم رجعت من عندهما نحو المنزل فحملت ملاط النبى فاغتسلت ولبست فضل كفنہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہیں کوئی بخار آیا نہ ہی کوئی اور تکلیف ہوئی انہوں نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور روضہ رسول پر گئی وہاں قبر و منبر کے درمیان دو گانہ پڑھی پھر دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اس وقت امیر المؤمنین علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بچوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے ابو کے پاس بیٹھیں پھر حضرت فاطمہ گھر آئیں آنحضرت کی چادر اٹھائی اور غسل کر کے آپ کے بچے ہوئے کپڑے پہن لئے و گریہ بجا ہوا کفن پہنا۔

ثم نادى يا اسماء امرأة جعفر طيار فقالت لبيد بنت رسول الله فقالت فاطمة لا تفارقيني فاني فى هذا البيت واضعة جنبى ساعة

فاذا مضت ساعة ولم اخرج فناديني ثلثا فانا
اجبتك فادخلي والا فاعلمى انى الحق برسول الله ثم
قامت مقام رسول الله وصلت ركعتين ثم طالت
وغارت وجهها بطرف رداؤها - وقيل بل ماتت فى سجودها
اقلت اسماء بفاطمة الزهراء وفادت ثلثا يا ام الحسن
والحسين يا بنت رسول الله فلم تجب فدخلت البيت
فاذا هى ميتة -

پھر حضرت جعفر طیار کی زوجہ حضرت اسماء رضی عنہ نے عرض کی مجھے
دختر رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا
نے ارشاد فرمایا اے اسماء تم میرے پاس سے الگ نہ ہونا کہ
میں اس گھر میں ایک ساعت یعنی گھڑی لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک
ساعت گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں۔ تو تم مجھ کو تین آوازیں دینا اگر
میں جواب دوں تو تم اندر چلی آنا ورنہ سمجھ لینا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جا ملی ہوں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور
۲ دو رکعت نماز پڑھی پھر لیٹ گئیں اور اپنا چہرہ مبارک چادر کے
پلے سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساعت گزری تو حضرت اسماء
نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف مخاطب ہو کر آواز دی اے
حسن حسین کی اماں اے دختر رسول مگر کچھ جواب نہ ملا
تب حضرت اسماء اس گھر میں داخل ہوئیں کیا دیکھتی ہیں کہ
جناب سیدہ عابدہ ذکیہ رحلت فرما چکی ہیں۔

شہ شقت اسماء جیہا وقالت کیف
 اخبرنی رسول اللہ بوفاتک شہ خرجت فلقیہا
 الحسن والحسین فقالا این اُمنّا فسکت فدخل
 البیت فاذا ممتدة فحکها الحسین فاذا ہی میتة
 فقال یا ابا جریک اللہ فی موت امانا وخرجنا
 ینادیان و الحمداه و الحمداه الیوم جدّ لنا
 موتک اذ ماتت اُمتنا شہ اخبرنا علیا وهو
 فی المسجد فغشی علیہ حتی رشی علیہ
 الماء فنجاء علی حتی دخل بیت فاطمہ وعند راسها
 تبکی اسماء و ابناء محمد ما کنا نشعر بفاطمہ
 موت جدّ کما فمن نسفر بعدک

یہ دیکھ کر اسماء نے اپنا گریبان شق کیا اور بولی کہ رسول اللہ نے
 تمہیں اپنی موت کی خبر کیوں دی تھی؟ پھر وہ باہر نکلی تو حسن و حسین
 سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کہاں ہیں؟ وہ خاموش
 رہی پس وہ کمرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہ اندر لیٹی ہوئی ہے
 حسین نے انہیں بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ فرمایا اے
 میرا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری والدہ کی موت پر اجر عطا فرمائے
 پھر دونوں کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے "یا احمدہ یا محمدہ !

آج ماں کی موت نے آپ کے موت کی غم کو تازہ کر دیا ہے۔
 پھر مسجد جا کر حضرت علی کو اس کی اطلاع دی یہ سن کر حضرت علی
 بے ہوش ہو گئے یہاں تک کہ ہوش میں لانے کے لئے
 پانی چھڑکا گیا ہوش میں آنے کے بعد گھر تشریف لائے

آل وقت اسماء حضرت فاطمہ کے سر ہانے بیٹھی رو رہی تھی اور کہتی تھی کہ
 ”اے پسران محمد! ہم تمہاری والدہ کے سبب تمہارے نانا کے غم کا احساس
 نہ کرتے تھے اب ہم کس کے چہرہ منور کی زیارت کریں؟“
 جب امیر المؤمنین نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹایا وہاں
 ایک رقمہ پڑا ہوا تھا جس میں لکھا تھا

فكشَف امير المؤمنين عن وجهها فاذا برقعة عند
 راسها فنطرف فيها فاذا فيها مكتوب :- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 هَذِهِ وَصِيَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ وَهِيَ تَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ
 اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ يَا عَلِيُّ
 اَنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ زَوْجَتِيْ اللّٰهُ مِنْكَ لَا كُوْنُ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَنْتَ اَوْلٰى بِيْ مِنْ غَيْرِكَ فَعَسَلَنِيْ وَحَنَطَنِيْ
 وَكَفَنِيْ وَادْفَنِيْ بِاللَّيْلِ وَلَا تَعْلَمُ اَحَدًا اسْتَوْدَعَكَ اللّٰهُ
 وَاَقْرَأَ عَلٰى وَلَدِيْ سَلَامًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی وصیت ہے کہ وہ شہادت دیتی
 ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحقیق جنت و دوزخ ہیں اور قیامت
 آنے والی ہے اللہ قبروں سے سب کو جمع کرے گا یا علی میں فاطمہ ہوں
 اللہ نے میرا عقد آپ سے کر دیا میں دنیا اور آخرت میں آپ
 کی بیوی ہوں میرے لئے زیادہ اولیٰ ہے کہ آپ مجھے غسل دیں۔
 جنوط کریں، کفنائیں اور رات کو دفن کریں کسی کو علم نہ ہونے دیں۔

خدا حافظ اور اولاد کو روز قیامت تک سلام کہتی ہوں۔

فلما جاء الليل غسلها على ووضعها على السري وقال للحسن ادع الى المصلى فصرى عليها ورفع يديه الى السماء فنادى هذه فاطمه اخيها من الظلمات الى النور فاضاعت الارض ميلا في ميل فلما ارادوا ان يدفنوها نادى بقعه من البقيع الى فقد رفع تربتها فنظروا بقبر محفور فحملوا السري اليها فدفنوها فجلس على شفير القبر فقال يا ارض استودعك وديعتي هذه بذت رسول الله فنودي منها يا على انا ارفق بها منك فارجع ولا تهتم فانسد القبر واستوى الارض فلم يعلم اين كان الى يوم القيامة۔

جب رات ہوئی حضرت علی نے انہیں غسل دیا اور تخت پر رکھا اما حسن سے فرمایا کہ ایک مصلی لائیں پھر آپ کے نماز پڑھی اٹھا کر دعا مانگی ۔
یہ فاطمہ تھی جو تاریکی سے نور کی طرف نکل گئی ، زمین ایک میل تک روشن ہو گئی جب انہوں نے دفن کرنے کا ارادہ کیا تو جنت البقیع کے ایک طرف سے آواز آئی کہ میری طرف لاؤ پھر اس جگہ کی مٹی بٹائی تو وہاں ایک قبر کھدی ہوئی تھی وہ تخت کو وہاں لے گئے اور وہیں دفن کر دیا حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ” اے زمین ! میں اپنی امانت کو تمہیں سونپتا ہوں یہ خستہ رسول اللہ ہے ، “
زمین سے آواز آئی یا علی ! میں آپ کی بنسبت اس پر زیادہ مہربان ہوں آپ تشریف لے جائیں کوئی فن نہ کریں پس حضرت علی نے قبر کو بند کر دیا اور وہاں کی زمین برابر کر دی اب قیامت تک کسی کو

معلوم نہیں کہ آپ کی قبر کہاں ہے؟

۸ = عن علی المرتضیٰ علیہ السلام عن رسول اللہ قال
یبعث عبد المطلب یوم القیامة امة واحدة علیہ بہاء
الملوک وسمیما النبوة

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
عبد المطلب امت واحدہ پر اٹھیں گے ان کی شان بادشاہوں جیسی
اور پیشانی نبیوں جیسی ہوگی۔

ایضاً عنہ قال قال رسول اللہ ان عبد المطلب
سن خمساً فی الجاہلیۃ فاجراها اللہ تعالیٰ فی الاسلام
حرّم نساء الابیاء علی الابناء فانزل اللہ ولا تنکحوا ما نکح
اباؤکم + ووجد ما لا فخرج منه خمساً وتصدّق
فانزل اللہ تعالیٰ واعلموا انما غنمتم من شیء فان
للہ خمسہ آلیۃ

ولما حضر برز زمزم سماها سقایۃ الحاج فانزل اللہ
اجعلتم سقایۃ الحاج الآیۃ وسن فی القتل بمائۃ
من الابل فاجری اللہ تعالیٰ ذالک فی الاسلام ولم یکن
للطواف عدد فی قریش فسق عبد المطلب سبعة
اشواط فاجری اللہ تعالیٰ ذالک فی الاسلام
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہی روایت ہے جناب

رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں پانچ طریقے مقرر فرمائے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام میں بھی جاری رکھا۔ باپوں کی بیویوں کو بیٹوں پر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو۔

آپ نے غنیمت میں ملنے والے مال کا پانچواں حصہ نکال کر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
جان لو جو تم مال غنیمت پاؤ اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے نکالا کرو
جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے چاہ زمزم کو کھودا تو اس کا نام سقایۃ الحباج رکھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آیت اجعلتم سقایۃ میں نازل کیا۔

آدمی کے قتل کا خون بہا ایک سواونٹ مقرر کیئے اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اسلام میں جاری فرمایا۔

قریش میں طواف کی تعداد کچھ مقرر نہ تھی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے سات طواف کے مقرر کئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام میں جاری کیا۔

۹ = وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ بْنُ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَا كَانَ يَسْتَقْسِمُ بِالْإِزْمِ وَلَا يَعْبُدُ

الاصنام ولا یا کل ما ذبح علی النصب وکان
علی ملۃ ابراہیم

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے جناب
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی
حضرت عبدالمطلب پانے سے تمقیم نہیں کرتے تھے یعنی جوا وغیرہ نہیں
کھیتے تھے، اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے بتوں کے نام پر جو
جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کو نہ کھاتے تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی ملت یعنی مذہب پر تھے =

۱۰ = عن الاعمش قال حدثنی ابو اسحاق بن الحارث

وسعد بن بشیر عن علی کرم اللہ وجہہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا واردکم علی الخوض
وانت یا علی الامر والحسن والحسین الساقی -
حضرت اعمش ابو اسحاق بن حارث اور سعد بن بشیر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے
بیان کیا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اے علی میں تم سے خوض کوثر پر ملوں گا تم حکم دینے والے اور حسن
وحسین پلانے والے ہیں -

۱۱ = وعن الامام علی الرضا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

انہ قال سید فی بعضۃ منی بخراسان ما زارہا مکروب
الانفس اللہ کریمہ ولا مذنب الا غفر اللہ لہ

حضرت امام علی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میرے جگر کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا جو سختی کا مارا اس کی زیارت کرے گا۔ اللہ سختی کو دور اور گناہگار کا گناہ معاف فرمائے گا۔

(فرائد السمیعین ۱۹۰/۲)

صدق اللہ وصدق رسولہ صلوۃ اللہ علیہ
وسلامہ ورحمۃہ وتحیاتہ علیہ وعلی الائمة الہدایۃ
من عترتہ الطاہرۃ وابدالدجی والعروۃ الوثقی
وحجج اللہ علی الوری ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تعالیٰ
اسی پر ہم اس رسالہ شریف کو ختم کرتے ہیں تاکہ میرے
لیئے اور رسول اللہ اور آپ کے آل اطہار کی تصدیق کرنے والوں
کے لیئے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا اور نجات
کا ذریعہ ہو (امین)

قُلْ اَسْأَلُكُمْ بِاللّٰهِ الْمُبْتَغٰی الْاَمْرِ الْقَرِیْبِ (القرآن)

سوانح اقدس سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيَّ وَتَسَلِّمُوا
(سورہ احزاب آیت ۵۶)
إِنَّ أَوَّلَى الْغَايَةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَى صَلَوةٍ (ترمذی)

کِتَابُ الصَّلَاةِ

عَلَى
سَيِّدِ السَّادَاتِ
عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

منتخب درود و سلام کا پوشیدہ خزانہ

فضائل و فوائد اور مستند حوالہ جات

تالیف لطیف

مداح رسول محمد منظر اور احمد نعمانی حشری قادری نقشبندی مجددی

دکان نمبر ۵۰ - دربار مارکیٹ لاہور
Voice: 042- 37249515
0307-4132690

اشاعت: کربلا والا بک شاپ

ایمان افزا احادیث نبویہ کا دکنش مجموعہ
اردو ترجمہ

مختار الاحادیث النبویة
والحکم المحدثیة

جواہر حکمت نبوی

مؤلف

السید احمد بن ابراہیم الہامی مترجم محمد اکرم
(ایم۔ فل۔ علوم اسلامیہ)
فاضل دارالعلوم دہلی نوریہ، مدیر و شریف

زیر سرپرستی: پیر حاجی الغلام الشیخی
برکات علی

فیض آباد، آستانہ عالیہ حضرت کریم الدین شریف

شرح

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
کا فیتہ حنفی ہیں ایک
نادر و نایاب مجموعہ

الجامع الصغیر

ترجمہ

مؤلف

ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی
ابو عبد اللہ محمد بن جن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ

دکان نمبر ۵۔ دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 042- 37249515

0307-4132690

کراں والا بک شاپ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شمال مغوی

الجامع الکبیر

مُسَدِّسَاتُ

جلال الدین

نکولات مہربانہ

فہمائل حیرت

زکریا دین

الحجوب

شرح الصدور

احوال مقدسہ

احادیث کا مجموعہ

الحجوب

اسوۂ حسنہ

دیوان یاض

کفر الحکام

الحجوب

فرز وطن

قائد الجہاد

عابد عمران انجم مدنی

الحجوب

نورانی حکایات

طلوع البدر

میری سرکار

کلام یاض

مرشد کامل

میرا سرکار

میرا سرکار

میرا سرکار



کرمائش والابک شاپ

دکان نمبر 5

Voice: 042-37249515

یہ کتابیں ابوبکر صدیق
یہ کتابیں فاروق اعظم
یہ کتابیں عثمان غنی
یہ کتابیں علی المرتضیٰ
یہ کتابیں نجم الخطیب
یہ کتابیں اصفوالقبور
یہ کتابیں وقار شریعت
یہ کتابیں فضائل علم و غلہ
یہ کتابیں ائیمہ شیعہ
یہ کتابیں مسکات و تاریخ بخش
یہ کتابیں تقسیم وراثت
یہ کتابیں تحقیق حلالہ
یہ کتابیں تجریم و فہم
یہ کتابیں تحقیق طلاق
یہ کتابیں حکایت بلالہ شہادہ
یہ کتابیں حکایت سلطان بابانو
یہ کتابیں کامیاب
یہ کتابیں میاں محمد بخش
یہ کتابیں لکھیاں نیں مویاں
یہ کتابیں مدینہ مہادی جان